

[AS INTRODUCED IN THE NATIONAL ASSEMBLY]

A

**BILL**

*to provide for establishment of Pakistan Land Port Authority*

WHEREAS, it is expedient to establish a Land Port Authority to provide and administer an integrated system of facilities for cross border movement of goods and passengers at land ports in Pakistan and to make provision for its operation, management, development of Land port and matters connected therewith and ancillary matters;

AND WHEREAS, it is necessary to provide a framework for the declaration, regulation, security and oversight of all land ports for purposes of promoting trade, fostering free competition, implementing border control and protecting the national and strategic interests of Pakistan for effective governance of land ports;

AND WHEREAS, it is imperative to establish a robust mechanism to carry out effective coordination with border agencies for trade facilitation in pursuance of the commitments of Pakistan under international agreements and conventions for enhanced land port efficiency and regional port competitiveness.

It is hereby enacted as follows: -

**CHAPTER I  
PRELIMINARY**

1. **Short title, extent, and commencement.**—(1) This Act shall be called the Pakistan Land Port Authority Act, 2024.

(2) It extends to the whole of Pakistan.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**—(1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) “Administrative Division” means the division to which the business of the Authority stands allocated;

(b) “Adjudication Board” means the Adjudication Board established under section 39;

(c) “Authority” means the authority constituted under section 3;

(d) “border control” means integrated systems and measures put in place to monitor and regulate the movement of people, vehicles and goods across land ports and to ensure the security of land ports and border crossing points in coordination with all relevant Government Agencies;

- (e) "border crossing point" means the territory or part of territory of border railway stations, border stations and any crossing point that allows for cross border movement of goods and passengers by road or rail as notified under the Customs Act, 1969 (IV of 1969) and under any other applicable law or rules for the time being in force
- (f) "Controller" means the Controller of the Management Board;
- (g) "goods" means any goods as defined under the Customs Act, 1969 (IV of 1969);
- (h) "Governing Council" means the Governing Council constituted under section 4;
- (i) "Government Agencies" means the ministries, divisions, departments, authorities, law enforcement agencies, corporations and other instrumentalities of the respective Governments and shall include their officers and representatives;
- (j) "infrastructure" means infrastructure required for setting up cargo and passenger terminals, administration center, infrastructure for handling, storage and transportation of goods including warehouses, container depots, canopies and cargo complexes for storage and processing of goods, facilitation of passengers, cargo and passenger transport, information communication technology and for providing facilities including but not limited to power, water and any other utilities and infrastructure required for land port operation and giving effect to the provisions of this Act;
- (k) "land" includes buildings and benefits arising out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;
- (l) "land port" shall mean any land customs station, border crossing point, or any area that provides or is intended to provide controlled entry into or departure from Pakistan of goods, vehicles and passengers with terminal services and facilities at the border as declared under section 18;
- (m) "land customs station" means any land customs station declared under the relevant provision of the Customs Act, 1969 (IV of 1969) for the clearance of goods or any class of goods imported or to be exported by land or inland waterways;
- (n) "land port operations" shall mean the services and facilities for the handling, storage and transportation of goods, facilitation of passengers and vehicles,

and any other services and facilities necessary for carrying out the operations of a land port as authorized and include such other operations as may be prescribed by rules.

- (o) "land port operator" shall mean the person or an organization holding a license or engaged under contractual agreement under this Act for carrying out land port operations;
- (p) "Managing Director" means the Chairperson of the Authority appointed under section 10;
- (q) "Member" means the members of the Governing Council, Authority or the Management Board, as the case may be;
- (r) "Management Board" means the Land Port Management Board constituted under section 20;
- (s) "Person" includes an association of persons or joint-venture, whether incorporated or otherwise, undertaking, firm, public or private concern, company, corporation, department, organization, agency, authority, or a body corporate set up or controlled by the Federal Government, or as the case may, a Provincial Government;
- (t) "prescribed" means prescribed by rules or regulations made under this Act;
- (u) "President" means president of the Governing Council;
- (v) "Regulations" means the regulations made under this Act;
- (w) "Rules" means the rules made under this Act;
- (x) "Secretary" means the secretary of the Authority; and
- (y) "Service Provider" means all persons other than Government Agencies and land port operators that provide services at the land ports relating to food, catering, health, recreational facilities and other general amenities.

**3. The Authority.**—(1) On commencement of this Act, there shall stand established an Authority to be known as the Pakistan Land Port Authority for carrying out the purposes of this Act.

(2) The Authority shall be a body corporate, having perpetual succession and a common seal, with power to purchase, procure, sell, exchange, hold, acquire, and dispose of property, both movable and immovable, as well as interests therein, and may, by its name, sue or be sued.

(3) The head office of the Authority shall be at Islamabad. The Authority may establish and operate regional offices at such other places, as the Authority may determine, from time to time.

## CHAPTER II

### CONSTITUTION AND ESTABLISHMENT OF THE AUTHORITY

4. **Governing Council.**—(1) On the commencement of this Act, the Prime Minister of Pakistan shall constitute a Governing Council of the Authority, consisting of the following members, namely:-

a. Minister of the Administrative Division	- President
b. Secretary of the Administrative Division	- Member
c. Secretary, Ministry of Commerce	- Member
d. Secretary, Ministry of Communication	- Member
e. Secretary, Ministry of Defence	- Member
f. Secretary, Revenue Division	- Member
g. Secretary, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives	- Member
h. Secretary, Ministry of National Food Security & Research	- Member
i. Managing Director	- Member
j. Director General, Federal Investigation Agency	- Member
k. Chief Executive, Trade Development Authority Pakistan	- Member
l. Member Customs (Operations)	- Member
m. President of Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry or his nominee of FPCCI	- Member
n. Economic Expert	- Member
o. Legal Expert	- Member
p. Additional Secretary Border Management Wing	-Secretary

(2) The Governing Council may co-opt such numbers of members in such manner and with such qualifications on such terms and conditions as may be prescribed by Regulations.

5. **Meetings of the Governing Council.**—(1) The meetings of the Governing Council shall be called by the President at least twice a year at such time and place as may be specified by him or on his direction, the Managing Director may call such meeting.

(2) The quorum for a meeting of the Governing Council shall be half of the total members:

Provided that no meeting of the Governing Council shall be held in the absence of the President and the Managing Director.

(3) The decisions of the Governing Council shall be taken by a majority of the members present and noting.

(4) The President or in his absence, the Managing Director shall preside over the meetings of the Governing Council.

(5) The President may invite any relevant Person to attend a meeting of the Governing Council on any specific agenda item taken up for consideration at such meeting.

(6) Subject to such restrictions as may be prescribed, the President may exercise any of the powers of the Governing Council or accord approval to a matter, which falls within the jurisdiction of the Governing Council:

Provided that any power exercised or order issued by the President shall be placed before the Governing Council in its next meeting for appropriate decision.

(7) No act or proceedings of the Governing Council shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Governing Council.

(8) Subject to the provisions of this Act, the Governing Council shall have the power to regulate the procedure and conduct of its business.

**6. Powers and Functions of the Governing Council.—**(1) The Governing Council shall be responsible for the overall supervisions of the Authority for the purposes of carrying out the functions under this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing, the Governing Council shall

- (a) supervise, monitor and review the functions of the Authority;
- (b) recommend for consideration by the Government requisite policy initiatives;
- (c) provide guidelines and directions to the Authority for carrying out its functions under this Act;
- (d) review plans and initiatives of the Authority;
- (e) conduct annual performance review of the Authority in such manner as may be prescribed by Regulations;
- (f) review and approve annual budget of the Authority, and ensure transparent utilization thereof in the manner prescribed by Regulations; and
- (g) transact such other business as entrusted to it under this Act.

(3) The Governing Council may, in such manner as may be prescribed, constitute committees and sub-committees, from time to time, and entrust such powers and functions to them, as the Governing Council may deem appropriate.

(4) The Governing Council may, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, delegate any of its functions to the Authority, or any Member thereof.

(5) The decision taken by Governing Council under this Act, shall be binding on Government Agencies to follow at land ports.

**7. Composition of the Authority.**— (1) The Authority shall comprise of the following members, namely:

- |   |               |
|---|---------------|
| (a) Managing Director   | - Chairperson |
| (b) Additional Secretary of the Administrative Division           | - Member      |
| (c) Additional Secretary, Ministry of Defence                     | - Member      |
| (d) Additional Secretary, Ministry of Commerce                    | - Member      |
| (e) Chairman, National Highway Authority                          | - Member      |
| (f) Member Customs (Operations)                                   | - Member      |
| (g) Director Military Operations, Military Operations Directorate | - Member      |
| (h) Additional Director General Immigration, FIA                  | - Member      |
| (i) Director, Pakistan Land Port Authority                        | - Secretary   |

(2) The Authority may, as deemed appropriate, co-opt logistics and supply chain professionals or any other relevant Person as member, from time to time, in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

(3) The Managing Director shall be the chief executive and principal accounting officer of the Authority and shall be responsible for carrying out the functions of the Authority.

**8. Meetings of the Authority.**—(1) The Chairperson may call and preside a meeting of the Authority at such times and at such places as may be specified by him or in his absence, the Additional Secretary of the Administrative Division may call and preside the meeting.

(2) The quorum of a meeting of the Authority shall be the majority of the total members and all order and decisions of the Authority shall be taken by vote of majority of the members present, and shall be recorded, in writing, by the Secretary.

(3) If an *ex-officio* Member is unable to attend the meeting, he may authorize any of his officer, not below the rank of BS-20 or equivalent, to attend the meeting in his place.

(4) No proceeding, meeting, or decision of the Authority shall be called in question or invalidated for the reason of a defect or vacancy in the constitution of the Authority.

**9. Powers and functions of the Authority.—**(1) The Authority shall exercise the powers and perform the functions necessary for the achieving the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of sub-section (1), the Authority shall have the power to

- (a) develop, administer and manage land ports and exercise powers of regulation of processes at land ports for facilitation of trade and implementation of Border Control;
- (b) inspect, monitor and administer the performance of land port operators;
- (c) monitor and coordinate with the Government Agencies engaged in or deployed at land ports;
- (d) stipulate and implement measures for reducing dwell time in clearance of goods at land ports in coordination with Government Agencies, and to formulate and develop strategies as well as procedures for carrying out its functions;
- (e) grant, issue, recognize, suspend, and revoke licenses, agreements and contracts for any commercial facilities for land port operators;
- (f) establish liaison and communication with foreign port authorities, international organizations and designated counterparts;
- (g) arrange and promote training sessions, seminars, workshops, and constitute working groups for implementing programs aimed at improving the functionality of land ports;
- (h) promote trade and protect the national as well as strategic interests of Pakistan at and across land ports;
- (i) facilitate the process of optimizing logistics costs and other related charges under the market economy;

- (j) determine, impose, levy, collect or cause to be collected fees, dues, charges, rents and other amounts under the Act;
- (k) establish cold storages, quarantine facilities, certification laboratories, hotels, residential buildings, restaurants, shops, restrooms and other recreational centers for facilitating passengers at land ports or any other facility as required;
- (l) accredit equipment and infrastructure, implement systems, and frameworks for the development and efficient operation of land ports;
- (m) develop and operate information technology systems for implementing integrated business processes, port community system and integrated cross-border cargo management systems for carrying out the purposes of this Act;
- (n) implement and facilitate programs for ease of doing business at land ports to ensure a trade-friendly environment;
- (o) purchase, procure, acquire, hold, sell and dispose of land and property, as well as interests therein, for carrying out the purposes of this Act;
- (p) procure, install, maintain, and modernize infrastructure including land port management system at land ports to ensure efficient provision of terminal services and facilities;
- (q) plan, construct and maintain roads, terminals and infrastructure within the limits of land ports in order to ensure their smooth functioning;
- (r) design, approve, execute any scheme, and to undertake any works for carrying out the purposes of this Act;
- (s) plan, develop and undertake any commercial undertaking or project individually or through joint venture or public private partnership with local and international agencies, government institutions and private sector for carrying out the purposes of this Act;
- (t) set up agencies, companies, subsidiaries, trusts, societies, associations, joint ventures (whether contractual or incorporated) or any other vehicle for the purposes of carrying out its objectives;
- (u) carry out investigation, survey, exploration or feasibility studies and to collaborate in, carrying out, or procure the carrying out of, research relating to its functions under this Act and publish information that results from the research;

- (v) acquire lands for carrying out purposes of the Authority and to lease, purchase, procure, sell, exchange, mortgage or rent out or otherwise dispose of any movable or immovable property;
- (w) the Authority may requisition or engage officers or members of the staff of the Government Agencies, on deputation or secondment basis, as per the applicable policy regime of the Federal Government, for carrying out its functions under this Act;
- (x) raise funds through borrowing, investments, leasing of assets or any other means in the manner prescribed by regulations and incur any expenditure necessary for carrying out the purposes of this Act; and
- (y) performing other functions connected therewith or ancillary thereto

(3) The Authority may, in such manner as may be prescribed by Regulation, constitute committees and sub-committees, from time to time, for the purposes of this Act.

(4) The Authority may, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed by Rules, delegate any of its functions to the Managing Director.

(5) The Authority shall exercise all the administrative, executive and financial powers and do all acts, which are required to be exercised or done by the Authority for the purpose of this Act.

**10. Appointment of the Managing Director.**— The Prime Minister shall appoint a Managing Director of the Authority who is serving or has served in BPS-22 having such qualifications, experience and on such terms and conditions as may be prescribed by Rules.

**11. Powers and functions of Managing Director.**—(1) The Managing Director shall exercise such administrative, operational and financial powers with regards to the functioning of the Authority, as may be delegated to him by the Authority under this Act.

(2) In particular and without prejudice to generality of sub-section (1), the Managing Director shall\_\_

- (a) administer day-to-day affairs of the Authority in accordance with the guidelines issued by the Governing Council;

- (b) appoint a Director General to the Authority on such terms and conditions as may be prescribed, who shall perform such functions as the Managing Director may assign;
- (c) ensure implementation of the directions and guidelines issued by the Governing Council;
- (d) exercise powers of the Controller of the Land Port Management Board, as and where directed by the Authority for reasons to be recorded in writing;
- (e) manage and supervise the officers, members of the staff and other employees of the Authority;
- (f) perform any act or function that may be assigned or delegated to him, under this Act; and
- (g) carry out all activities connected therewith or ancillary thereto for the purposes of this Act.

(3) The Managing Director may, either by himself or through any officer designated by him in this behalf, carry out correspondence and sign, verify, pursue and file all pleadings, contracts, and such other legal documents on behalf of the Authority at appropriate forum.

(4) For the efficient management of the Authority, the Managing Director with the approval of Governing Council may, from time to time, subject to such restrictions as may be prescribed, delegate any of his powers and functions to any Member or officer of the Authority.

**12. Employment under the Authority.—**(1) The Authority may, from time to time, appoint, engage, induct, remove or transfer as deemed appropriate, any person as an employee, officer, staff, expert, consultant, advisor, public servant on deputation, or through initial recruitment, contractual or other basis by such procedures on such and the terms and conditions of their service may as be prescribed by Regulations.

(2) The Authority may, from time to time, establish, create, sanction, approve, abolish, or merge any post, office, or directorate, as may be required.

(3) In case of any adverse finding by the Authority against any public servant on deputation shall forwarded such findings to the relevant agency for disposal of case, which shall be decided by the relevant agency under its relevant laws and rules made there under

**13. Employees to be public servants:** The Managing Director, Members, employees, directors, staff, functionaries, and officers of the Authority shall, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, be deemed to be public servants, within the meaning of section 21 of the Pakistan Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860).

### **CHAPTER III**

#### **COORDINATION WITH GOVERNMENT AGENCIES, TRADE FACILITATION AND BORDER CONTROL**

**14. Coordination, Trade Facilitation and Border Controls.**—(1) For the performance of functions under this Act, the Authority shall provide office space and areas, duly designated for different Government Agencies within each land port and ensure provision of basic requirements.

(2) The Authority shall be solely responsible for coordinating with all relevant Government Agencies for performance of their functions and for implementing Border Control, and shall facilitate the working of such agencies at land ports.

(3) For purposes mentioned in sub-section (2), the Authority shall issue standard operating procedures, code of operations and may enter into arrangements, where required, with Government Agencies.

(4) The Authority shall ensure the peace and security at land ports, through assistance of armed forces, customs, rangers, police, security forces and Government Agencies.

(5) Notwithstanding anything contained in any provisions of this Act, the Government Agencies shall discharge their functions under their respective laws.

(6) If any dispute arises with regard to coordination amongst the Government Agencies, standards or in their roles and duties amongst each other or any other dispute under this Act, such disputes shall be settled by the Authority.

(7) If any Government Agency is not satisfied with the resolution of the dispute under sub-section (6), such agency may refer the matter to the Governing Council, which shall decide upon the matter on expeditious basis and such decision shall be binding on all Government Agencies.

(8) For the purposes of trade facilitation, integrated border management, interagency cooperation, implementing standards, reduction in dwell time and other inter-agency issues for clearance of goods, the working of relevant Government Agencies shall be coordinated for operational efficiency. The data and information in this respect shall be maintained and published by the Authority.

#### CHAPTER IV CONFLICT OF INTEREST AND REMOVAL

**15. Conflict of interest.**—(1) Every Member shall arrange and manage his affairs in a manner that prevents such person from having a conflict of interest, direct or indirect, pecuniary or otherwise, with the affairs of the Authority, and shall make a declaration to this effect in such manner as may be prescribed by Regulations.

(2) Any person who is in contravention of the provisions of sub-section (1), or submits a false or inaccurate declaration to such effect, shall be proceeded against in such manner as may be prescribed under Regulations may result in his removal as well.

**16. Members Not to engage in other businesses:** The Members other than an *ex-officio* members shall not, during their respective term of office, engage with, for compensation or profit, any person or entity engaged in land port operations, or any part thereof, under this Act.

**17. Removal, resignation etc of Member.**—(1) Any Member, other than an *ex-officio* member, may be removed from such body, by the appointing authority, if such member\_\_

- (a) is found guilty of misconduct;
- (b) is inefficient or becomes incapable of discharging his responsibilities and functions under this Act;
- (c) is declared insolvent by a competent court of law;
- (d) is declared to be disqualified for employment in, or has been dismissed from the service of Pakistan or has been convicted by a court of competent jurisdiction, of offences involving moral turpitude or financial embezzlement; or
- (e) enters into plea bargain under any law for the time being in force.

(2) Any Member, other than an *ex-officio* member, may resign from his office under this Act at any time by writing under his hand addressed to the appointing authority, and such resignation shall be effective from the date of its acceptance by the appointing authority.

## CHAPTER V

### DECLARATION OF LAND PORTS AND SETTLEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

**18. Declaration of Land Ports.**—(1) The Authority may, from time to time, by notification in the official Gazette, declare, define, alter or extend the limits of any land port for the purposes of this Act after the same being duly notified under the Customs Act, 1969 (IV of 1969).

(2) The limits defined under sub-section (1) may extend to any portion of roads, highways or railways or any part thereof that approaches a land port, and may include any infrastructure, warehouses, sheds and other installations, or other structures related to the improvement, maintenance, and good governance of the land port, but subject to any rights or proprietary interests of any person.

**19. Assets And Liabilities.**—(1) On the date of notification of the Authority or any time afterwards as specified in the said notification, all lands, buildings, equipment and all other forms of property relating to land port, whether real or personal, and all interests therein, as immediately before the issue of that notification or specified date, as the case may be, were in the ownership or possession or lease of the Federal Government, subject to such limitations if any Federal Government may, in such notification specify, shall vest in the Authority and such vesting shall also be deemed to include liabilities and obligations in relation to such assets.

(2) The notification under sub-section (1) shall be issued only after the concurrence of the concerned Government Agencies, in case where such properties are owned or controlled by any of such Government Agency.

(3) Notwithstanding any thing contained in this Act, except with the prior written permission of the Governing Council, the Authority shall not sell any land vested in the Authority.

(4) Any contract, agreement, and working arrangement subsisting in relation to land ports, immediately before the date of notification of Authority under section 3, shall be succeeded by the Authority with such modifications and adaptations or execution as are necessary to give effect to the provisions of this Act.

(5) Where at the time of the transfer of any functions by or under this Act, any legal proceedings are pending to which any Government Agency is a party and those

proceedings relate to the functions transferred by or under this Act, the Authority shall be substituted in those proceedings for such Government Agency and the proceedings shall not abate by reason of the substitution.

(6) If any question arises as to whether any asset has become the property or responsibility of the Authority, that question shall be decided by Federal Government.

## CHAPTER VI

### LAND PORT MANAGEMENT BOARD

20. **Land Port Management Board.**—(1) The Authority shall constitute a Management Board for each land port consisting of the following ex-officio members, namely:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| (a) Controller (serving or retired BPS - 19 or 20, or equivalent officer)   | - Chairperson          |
| (b) Officer of Federal Investigation Agency   | - Member               |
| (c) Assistant or Deputy Collector of Customs posted at the concerned land port  | - Member               |
| (d) Officer of Anti-Narcotics Force   | - Member               |
| (e) Border Terminal Operator  | - Member               |
| (f) An officer of relevant Civil Armed Force responsible for security of the relevant land port duly nominated by the Authority | - Member-cum-Secretary |

(2) The Management Board may, as deem appropriate, co-opt any other officer of the relevant Government Agency as a member of the Management Board, in writing, for such purpose and for such period, as the Controller may deem appropriate.

(3) The Controller shall be responsible for managing affairs of the Management Board as well as the execution of the functions assigned or delegated to it under this Act.

(4) The Management Board shall meet at such times and in such places and manner, as may be determined by the Controller. The Secretary of the Board shall preside in the absence of Controller:

(5) The Management Board shall meet at least once every week.

21. **Powers and function of Management Board.**—(1) The Management Board shall monitor and regulate the activities of land port operators, Service Providers and coordinate with other Government Agencies for smooth operations at the land port, and for implementing Border Control as per the provision of this Act.

(2) In line with national security, trade imperatives and directions of the Authority, the Management Board shall facilitate international trade and implement measures for safeguarding the strategic interests at land port subject to applicable provisions of laws for the time being in force. The Management Board shall also engage with the relevant stakeholders for smooth functioning of relevant land port.

(3) In addition to their applicable laws if any, all Government Agencies, land port operators and Service Providers shall, within the territorial limits of each land port abide by the provisions of this Act.

**22. Power to implement directions.**—(1) Any person who being subject to the provisions of this Act:

- (a) undermines or commits fraud in the performance of land port operations within the territorial limits of a land port;
- (b) Contravenes any of the provisions of this Act and the Rules and Regulations made hereunder; or
- (c) has been charged with a penal offence under the laws for the time being in force in Pakistan,

shall be liable for such disciplinary and pecuniary proceedings, as may be prescribed by Rules.

(2) Any person may lodge a complaint regarding any of the matters enumerated in sub-section(1), to the Controller.

(3) The Controller shall, either on his own or upon the complaint of any person under sub-section (2), immediately place the matter before the Management Board.

(4) The Management Board, if the complaint pertains to any employee of the Authority or any land port operator, shall decide the matter within three days after providing such delinquent an opportunity of being heard. Where the complaint is against a person of the other Government Agencies, the matter shall be forwarded to the concerned officer of that Government Agency to be dealt under their respective laws.

(5) Where a complaint has been received against Chairperson of the Management Board, the same shall be placed before the Authority, who shall decide the same within seven days, in the manner prescribed:

Provided that the decision of the Authority, under this sub-section, shall be final.

## CHAPTER VII

### CONTRACTS BY AUTHORITY, OUTSOURCING AND LICENSING

**23. Contracts by authority etc.**—(1) Every contract on behalf of the Authority, shall be made by the Managing Director or such other officer of the Authority as may be generally or specially empowered in this behalf by the Authority and shall be sealed with the common seal of the Authority.

(2) The Authority may enter into any contract or arrangement with any person, entity, company, agency, authority, or organization national or international and may outsource land port operations and any of its functions or activities, including development works, through any mode including public private partnerships.

Provided that the land port operations can be out sourced to only such land port operators who is registered under the provisions of the Customs Act, 1969 (IV of 1969) and rules made thereunder.

(3) Notwithstanding anything contained in any other law, the Authority shall prescribe by Rules the criterion for selection of land port operator and Service Provider and award contracts accordingly.

(4) For the performance of functions and carrying out activities, the Authority may delegate, outsource or lease or assign the right and collection of any user fees, dues or charges under this Act to such private entity, operator or entity as the case may be.

(5) In accordance with the provisions of the Public Private Partnership Authority Act, 2017 (VIII of 2017), and rules and regulations made thereunder, the Governing Council may, by rules, prescribe the manner, methods and procedures for undertaking public private partnerships under this Act.

(6) In accordance with the provisions of the Public Procurement Regulatory Authority Ordinance 2002 (XXII of 2002), any rules and regulations made thereunder, the Governing Council may, by rules, prescribe the manner, methods and procedures for undertaking procurement under this Act.

**24. Grant of Licenses.**—(1) Unless an agreement is executed under section 23, no person or entity may provide services relating to land port operations or any services at a land port or perform any functions under this Act, otherwise than in terms of a licence issued to it under the prescribed Rules.

(2) Subject to the conditions stipulated under this Act and in accordance with existing laws or in the manner as may be prescribed, the Authority shall have the power to grant, issue, recognize, renew, extend, modify, amend, suspend, review, cancel, re-issue, revoke, or terminate a license for any person to carry out any component of land port operations as may be prescribed by Rules.

## CHAPTER VIII

### OFFENCES

25. **Offences.**—(1) Any person who knowingly\_\_

- (a) undertakes, without a valid license or agreement, any of the activities envisaged under this Act;
- (b) performs any act with the intention of interfering with, obstructing, or encumbering, without authorization, the land port operations;
- (c) undermines or defrauds the lawful exchange of persons, goods and services in or across land ports; and
- (d) causes physical damage to the establishment, installation or infrastructure, or any part thereof, of a land port, land port operator or service provider;

shall be guilty of an offence punishable with imprisonment upto three years and fine upto two hundred millions rupees under this Act:

Provided that the punishment and fine under this Act shall be in addition to the punishment and fine provided under any law for the time being in force.

(2) Any person who attempts or aids, abets, counsels or procures the commission of an offence under this Act shall be punishable with the same punishment provided for the offence he so aids, abets, counsels, or procures.

(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall be in addition to, and not in derogation of, any law for the time being in force.

26. **Cognizance of offences.**- Unless otherwise provided in any other law, no court shall take cognizance of an offence punishable under this Act, except on a complaint made to a court of competent jurisdiction in writing by the Authority or a person authorized by it in this behalf.

## CHAPTER IX STRATEGIC SUPPORT

**27. Strategic support.**— (1) The Authority may, for the effective performance of its functions, as well as for securing or enhancing the efficiency of land port operations, or in public interest, or for the defence and security of Pakistan, seek assistance and support of the Federal Government, or any body, company, corporation, entity, organization, agency, functionary, or instrumentality owned or controlled by the concerned Governments and may call any functionary of the concerned Government to provide assistance in its functions and call for any information from such functionary in pursuance of the objectives and functions under this Act.

(2) All Government Agencies, land port operators, and Service Providers shall render such assistance to the Authority, as may be required for the exercise or performance of activities and functions, of the Authority under this Act.

(3) The Authority may requisition or engage officers or members of the staff of the Government Agencies, on deputation or secondment basis, as per the applicable policy regime of the Federal Government, for carrying out its functions under this Act.

**28. Power of the Federal Government to issue Policy Guidelines.**— The Authority shall be bound to comply with the policy guidelines issued by the Federal Government, to the extent that these are not inconsistent with the provisions of this Act.

## CHAPTER X FINANCIAL PROVISIONS

**29. Authority to charge fees, rent etc. at land ports.**—(1) The Authority shall be competent to impose, levy and collect such fees, dues, charges, rentals, and other amounts at such rates separately for each land port from time to time as under,-

- (a) handling and transportation of cargo, storage, warehousing, weighment, entry and parking fees for trucks/cargo vehicles, transshipment and any service or facility offered in connection with transport operations;

- (b) parking spaces and other amenities given to the passengers and visitors;
- (c) in respect of commercial exploitation of properties of the Authority, whether movable or immovable including land, building and infrastructure;
- (d) fees paid in connection with any accreditation, survey, inspection, permit, authorization, license, approval either issued or renewed and for rendering any other services provided by the Authority;
- (e) collection of fine and penalty for violation of the Act, rules and regulations framed thereunder; and
- (f) any other fee or levy as prescribed from time to time

(2) Before approving any fees or charges under clauses (a) and (b) of subsection (1) the Authority shall consider the recommendations of the Government Agencies and invite objections from public or private sector at least two weeks before notifying the same in a consultative process:

Provided that the Authority is not bound by the objections received.

**30. Exemption and power to remit.**—In special cases, the Authority may, with the approval of the Governing Council, waive or remit in full the whole or any portion of fees, dues, charges, rentals and other amounts under section 29 on such terms as specified in the aforesaid approval.

**31. Pakistan Land Port Authority Fund.**—(1) On commencement of this Act there shall be constituted a non-lapsable fund vested in the Authority known as the “Pakistan Land Port Authority Fund” hereafter refer to as “The Fund” to be utilized by the Authority to meet charges in connection with its functions under this Act including the payment of salaries and other remuneration to the Managing Director, Members, officers, employees, experts and consultants of the Authority.

(2) The sources of the Funds shall be—

- (a) funds, loans or grants provided by the Federal Government or Provincial Government or local bodies;
- (b) local loans obtained by the Authority;

- (c) foreign aid and loans obtained from any source outside Pakistan;
- (d) all sums received by the Authority as fees, charges, rentals, etc. and other moneys received or collected the Act;
- (e) income from lease and sale of assets of the Authority;
- (f) funds from bonds, sukuk and other forms of finances obtained on the basis of participation term certificates, musharika certificates, term finance certificates or any other financial or debt instruments or securities issued by the Authority; and
- (g) all other sums received by the Authority such as damages, costs, refunds, fines, penalties etc.

(3) The Authority shall have the power, subject to the provisions of this Act, to spend such sums as it thinks fit to cover all administrative, business development expenses of the Authority and for performing any function of the Authority and such sums shall be treated as expenditure out of the fund of the Authority.

(4) All moneys standing at the credit of the Authority which cannot immediately be applied as provided under sub-section (3) shall be \_\_

- (a) deposited in bank accounts as provided in section 32; and
- (b) invested in the securities of the Federal Government or in such manner as may be prescribed under rules.

**32. Bank Accounts.**—The Authority may open and maintain its non-lapsable bank accounts in scheduled banks and shall operate such accounts in such manner as may be prescribed by regulations:

Provided that till the time the Regulations and made the Authority may operate such accounts in accordance with the directions of the Governing Council.

**33. Borrowing powers of Authority.**—The Authority, for the purposes of its capital expenditure, working capital requirements or for performing any of its functions may raise loan in any currency from any:

- (a) scheduled bank or financial institution located within Pakistan;

- (b) financial institution in any country outside Pakistan in compliance with the laws for the time being in force;
- (c) funds from bonds or securities.

**34. Budget and Accounts.**—(1) The Authority shall maintain proper accounts and other records relating to its financial affairs including its income and expenditures and its assets and liabilities in such form and manner as may be prescribed under Rules.

(2) The Governing Council shall approve the annual budget of the Authority for a financial year in the manner prescribed by Rules.

(3) The Managing Director shall have the power to re-appropriate funds in various heads of accounts as per the Rules and Regulations applicable therein.

**35. Audit.**—(1) The accounts of the Authority shall be audited every year by the Auditor General in terms of Articles 169 and 170 of the constitution.

(2) The accounts of the Authority, as certified by Auditor General of Pakistan together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Federal Government by the Authority.

(3) The Authority may, in addition to the audit under sub-section (1), cause to be carried out internal audit of its accounts.

**36. Recovery of fees, charges etc..** All fees, charges, dues, fines and other sums due to the Authority under this Act shall be recovered by such modes of recovery as may be prescribed by Rules

## **CHAPTER XI**

### **ADJUDICATION BOARD AND DISPUTE RESOLUTION**

**37. Complaint Cell.**—(1) The Authority shall establish a complaint cell at each land port, which shall receive complaints from any land port user or any person aggrieved on any non-contractual matter relating to land port.

(2) The Complaint Cell shall enter all complaints in serially numbered register and shall undertake expeditious measures to resolve the complaint within twenty one days from receipt of complaint.

(3) The complainant shall remain posted about the status of the complaint.

**38. Adjudication Board.**—(1) There shall be established an Adjudication Board by the Authority for speedy disposal of complaints, claims and disputes of general public, users of land port services and parties having claims or aggrieved by actions of the Authority under the Act, rules and regulations that shall dispose of the same on expeditious basis.

(2) The composition, conduct and procedure of Adjudication Board shall be such as may be prescribed by Rules and the proceedings before the Adjudication Board may be conducted in person or by virtual communication.

(3) The Adjudication Board referred to in this section shall perform the following functions namely:-

- (a) to receive and adjudicate reference on any dispute or differences including fines imposed by the Authority or claims arising under this Act, rules and regulations or relating to rights and obligations of parties within the framework of their agreements entered with the Authority, and to pass orders after considering and hearing all the parties involved in the dispute;
- (b) to look into the complaints received from land port users or general public against the services and terms of services rendered by the Authority, if not addressed by the Complaint Cell within the stipulated time and to pass necessary orders after hearing the parties concerned;
- (c) conduct an inquiry in any case; and
- (d) to look into any other matter relating to the operations of the Authority, as may be referred to it by the Federal Government, Governing Council or the Authority, and to pass orders or give suggestions, as the case may be.

(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Adjudication Board shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), while trying a suit, in respect of the following matters, namely: -

- (a) the discovery and production of books of account and other documents, at such place and at such time as may be specified by the Adjudication Board;
- (b) summoning and enforcing the attendance of persons and examining them on oath;
- (c) issuing commissions for the examination of witnesses or documents; to receive evidence on affidavit, to compel a person to give evidence and to produce any document or other material;
- (d) requisition information from any office;
- (e) issue summons to any party, witness; and
- (f) any other matter which may be prescribed.

(5) Any proceeding before the Adjudication Board shall be deemed to be a judicial proceeding.

(6) The Adjudication Board shall execute its decisions in such manner as may be prescribed by Regulation.

(7) During the course of any proceedings before the Adjudication Board and before passing a final order, the Adjudication Board may pass such interlocutory orders as it may consider appropriate in the circumstances.

**39. Dispute Resolution.**—In case of any dispute between the Authority and any entity arising out of the public private partnership agreement or concession agreement or any other agreement having contract value above one hundred million rupees, then notwithstanding any provisions of the Act, the parties shall resolve the dispute in the following manner namely;-

- (a) the parties shall first deliberate to achieve a consensus; and
- (b) if no consensus is achieved, the parties shall settle the dispute in an amicable manner by mediation or arbitration as provided under any contract agreement entered into with the Authority.

**40. Review and appeal of any order or decision.**—(1) If there is any clerical and manual calculation errors in any decisions or order of the adjudication board and party aggrieved by such decision or order may apply for a review of such decision before the Adjudication Board, in such form and manner and within such time, as may be prescribed by Regulations and the Adjudication Board may make such order thereon, as it thinks fit.

(2) Any party aggrieved by any decision or order of the Adjudication Board, may file an appeal to the Appellate Tribunal, within thirty days from the date of communication of such decision or order to him:

Provided that no appeal shall lie from a decision or order passed by the Adjudication Board with the consent of parties.

(3) The composition, conduct, procedure of the Appellate Tribunal and its functions shall be such as prescribed by Rules and the proceedings before the Appellate Tribunal may be conducted in person or by virtual communication.

## **CHAPTER XII MISCELLANEOUS**

**41. Submission of annual report.**—(1) The Authority shall, within three months of the end of a financial year, submit to the Federal Government an annual report.

(2) the Annual report under sub-section (1) shall consist of, \_\_

- (a) the statement of accounts and audit reports of the Authority;
- (b) a comprehensive statement of the work and activities of the Authority during the preceding financial year and its proposed projects; and
- (c) such other matters as may be prescribed by Rules or as the Authority may consider appropriate.

**42. Acquisition of land.**—(1) The acquisition of any land or any interest in land for the purposes of performing the functions of the Authority shall be deemed to be an acquisition for public purposes.

(2) Where any land is required for the purposes of the Authority, the Federal Government or as the case may be, the Provincial Government may, at the request of the Authority, procure the acquisition thereof under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894) or any other law for the time being in force. After payment by the

Authority of the compensation awarded under that Act and of the charges incurred in connection with the proceedings, the land shall vest in the Authority.

**43. Purchase, lease or exchange of property.**—The Authority may purchase, lease or exchange any land or building or any other property by entering into an agreement with the owner of the property, or a person legally competent to sell, lease out or exchange such property.

**44. Custody and disposal of lost property.**—Subject to other provisions of this Act and Regulations as prescribed, the Authority shall provide for securing the safe custody and disposal of any property, which, while not in proper custody, is found on any premises belonging to the Authority or under its overall control.

**45. Co-operation with international organizations.**—The Authority may, subject to the prior approval of the Federal Government, co-operate with foreign port authorities or international organizations in the field of transportation, logistics, port management, cross border movement of goods and people or related fields on the terms and conditions of any program or agreement for co-operation to which such authority or organization is a party, or pursuant to any other international agreement made earlier or after the commencement of this Act.

**46. Industrial Relations Ordinance, 1969, etc. not to apply.**—Nothing contained in the Industrial Relations Act, 2012 (X of 2012) or in any other law relating to labour or trade unions for the time being in force shall apply in relation to the Authority or any of the members, employees, functionaries, officers, experts, consultants and advisors of the Authority.

**47. Symbol, design or representation of Authority.**—(1) The Authority shall have the exclusive right to the use of such symbol, design or representation as it may select or devise and thereafter display or exhibit it in connection with its activities or affairs.

(2) Any person who, knowingly or otherwise, uses a symbol, design or representation identical with that of the Authority or which resembles the symbol, design or representation, which causes or is likely to cause a deception of the identity of the Authority, shall be punished in such manner as may be prescribed by Rules.

**48. Power to make Rules.**—(1) The Federal Government shall make rules not inconsistent with the provisions of this Act, for giving effect to the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality to the foregoing, rules may be framed for, *inter alia*, the following, namely:-

- (a) administrative, operational, and financial management of the Authority;
- (b) procedure of the issuance, modification cancellations and revocation of licenses under this Act;
- (c) regulation and control of movement of vehicles, goods, entry and exit of passengers and other personnel at land ports;
- (d) the inspection and regulation of commercial services, Service Providers and land port operators, the conditions under which infrastructure may be operated, managed, maintained, monitored, evaluated and for services provided;
- (e) the inspection or supervision of properties of the Authority for the purpose of enforcing the provisions of the Act;
- (f) provisions for accreditation;
- (g) imposition and collection of fines subject to provisions of the Act; and
- (h) any other matters as provided in the Act.

**49. Power to make Regulations.**—(1) The Authority may make regulations, not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made under this Act, for carrying out the purposes of this Act:

(2) In particular, and without prejudice to the generality to the foregoing, Regulations may be framed for, *inter alia*, the following, namely:-

- (a) appointing, inducting, removing or regulating employees, officers, staff, consultants or advisors of the Authority;
- (b) terms and conditions of service for the employees, officers, staff, consultants or advisors of the Authority;
- (c) procedure for appointment of members of various committees, as well as the procedure or conduct of such committees; and
- (d) any other matter connected therewith or ancillary thereto.

**50. Authority to be exempt from taxation.**— Notwithstanding anything contained in any other law, for a period of five years starting from the commencement of this Act, the Authority shall be exempt from the payment of income tax. For this purpose, the

Federal Government may take all necessary administrative measures, and pass all requisite orders, instructions or notifications.

**51. Confidential Information.—**(1) Except as provided under the Rules made under this Act, no person shall communicate or allow to be communicated, any record or information obtained pursuant to this Act, to a person not legally entitled to that record or information or allow any person not legally entitled to that record or information to have access to any record obtained under this Act.

(2) Any person who contravenes the provisions of this section, shall be punished in such manner, as may be Prescribed.

**52. Indemnity.—** No suit, prosecution or other legal or judicial proceedings shall lie against the Governing Council, Authority, Managing Director, Secretary, members, employees, officers, members of the staff, experts, consultants or advisors of the Authority, in respect of anything done or purported to be done in good faith, under the provisions of this Act or the Rules and Regulations made hereunder.

**53. Savings and Transition.—** Any existing contracts or arrangements of parties engaged in land port operations at land ports prior to the commencement of this Act shall continue till awarding of contracts or licenses under this Act by the Authority for such land ports;

Provided that such transitory arrangements shall remain in force only for a period as deemed necessary by the Authority in the interest of fostering free competition.

**54. Act not to derogate.--** The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of any law governing any government agencies involved in connections with the affairs of land port and in case of any conflict the provisions of this Act shall prevail.

**55. Removal of difficulty.—** If any difficulty arises in giving effect to any provision of this Act, the Federal Government may, give such directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as deem appropriate.


## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

**Subject: PAKISTAN LAND PORT AUTHORITY (PLPA) BILL-2024**

It is expedient to establish a Land Port Authority to provide and administer an integrated system of facilities for cross border movement of goods and passengers at land ports in Pakistan and to make provision for its operation, management, development of Land port and matters connected therewith and ancillary matters;

In order to provide a framework for the declaration, regulation, security and oversight of all land ports for purposes of promoting trade, fostering free competition, implementing border control and protecting the national and strategic interests of Pakistan for effective governance of land ports; Further, it is imperative to establish a robust mechanism to carry out effective coordination with border agencies for trade facilitation in pursuance of the commitments of Pakistan under international agreements and conventions for enhanced land port efficiency and regional port competitiveness.

In pursuance of the aforesaid objects and reasons, this Bill is being introduced to streamline the administration and regulation of the Pakistan Land Port Authority.

  
(Syed Mohsin Raza Naqvi)  
Minister for Interior

## [قومی اسمبلی میں پیش کردہ صورت میں]

### پاکستان پورٹ لینڈ (زمینی بندرگاہ) اتھارٹی کے قیام کے لیے بل

ہرگاہ کہ یہ قرین مصلحت ہے کہ پاکستان میں لینڈ پورٹس (زمینی بندرگاہوں) پر سامان اور مسافروں کی سہولت آراپار نقل و حرکت کے لیے ایک مربوط نظام قائم کرنے اور اس کا انتظام کرنے اور اس کی فعالیت، انتظام، اراضی بندرگاہ کے فروغ اور اس سے منسلک معاملات اور ذیلی معاملات کا اہتمام کرنے کے لیے لینڈ پورٹ (زمینی بندرگاہ) اتھارٹی قائم کی جائے۔

اور ہرگاہ کہ، تجارت کو فروغ دینے، آزادانہ مسابقت کی ترقی کے لیے، سرحدی انضباط کے نافذ کرنے، لینڈ پورٹس کے مؤثر انتظام کے لیے اور پاکستان کے قومی اور ترقیاتی مفادات کے تحفظ کی اغراض کے لیے جملہ لینڈ پورٹس کے مؤثر انتظام، ضابطے حفاظت اور نگرانی کے لیے ایک نظام قائم کرنا ضروری ہے۔ لینڈ پورٹس کی کارکردگی کے فروغ اور علاقائی پورٹس کی مسابقت اور چونکہ، بین الاقوامی معاہدوں اور سمجھوتوں کے تحت پاکستان کی یقین دہانیوں کے مطابق تجارتی سہولت کے لیے سرحدی اداروں کے ساتھ تعاون کے لیے ایک مستحکم نظام قائم کرنا ناگزیر ہے۔ بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا گیا ہے:-

## باب-اول

### ابتدائیہ

۱- مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ:- (۱) اس ایکٹ کو پاکستان لینڈ (زمینی بندرگاہ) پورٹ

ایکٹ، ۲۰۲۳ کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔

(۲) یہ ملک بھر میں وسعت پذیر ہوگا۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲- تعریفات:- (۱) اس ایکٹ میں، تا وقتیکہ اس کے سیاق و سباق میں کوئی امر منافی نہ ہو،

(الف) ”انتظامی ڈویژن“ سے وہ ڈویژن جس کے لیے اتھارٹی کے امور مختص کیے گئے مراد ہے؛

(ب) ”تصفیہ جاتی بورڈ“ سے دفعہ ۳۹ کے تحت قائم کردہ تصفیہ جاتی بورڈ مراد ہے؛

- (ج) ”اتھارٹی“ سے دفعہ ۳ کے تحت تشکیل کردہ اتھارٹی مراد ہے؛
- (د) ”سرحدی نگرانی“ سے لینڈ پورٹس پر لوگوں، گاڑیوں، اور سامان کی نقل و حرکت کی نگرانی اور ان کو منضبط کرنے اور تمام متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر لینڈ پورٹس اور سرحدی گزرگاہوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مربوط نظام اور اقدامات مراد ہیں؛
- (ہ) ”سرحدی گزرگاہوں“ سے سرحدی ریلوے اسٹیشنز، سرحدی اسٹیشنز اور کسی بھی مقام گزرگاہ کے علاقے یا علاقائی حصے جو کہ محصولات ایکٹ ۱۹۶۹ء (نمبر ۴ بابت ۱۹۶۹ء) کے تحت یا کسی بھی دیگر قابل اطلاق قانون یا فی الوقت نافذ العمل قواعد کے تحت مشتہر کردہ شاہراہ یا ریل کے ذریعے سامان اور مسافروں کی سرحد آر پار نقل و حرکت کی اجازت دیتے ہوں مراد ہے۔
- (و) ”کنٹرولر“ سے انصرامی بورڈ کا کنٹرولر مراد ہے؛
- (ز) ”سامان“ سے کوئی بھی سامان مراد ہے جیسا کہ محصولات ایکٹ ۱۹۶۹ء (نمبر ۴ بابت ۱۹۶۹ء) کے تحت بیان کیا گیا ہے؛
- (ہ) ”گورنگ کونسل“ سے دفعہ ۴ کے تحت تشکیل کردہ گورنگ کونسل مراد ہے۔
- (ط) ”سرکاری اداروں“ سے متعلقہ حکومتوں کی وزارت، ڈویژنز، محکمے، حکام، قانون نافذ کرنے والے ادارے، کارپوریشنز اور دیگر معاون ادارے اور بشمول ان کے افسران اور نمائندے مراد ہیں۔
- (ی) ”بنیادی ڈھانچہ“ سے مال برداری اور مسافروں کے ٹرمینلز کے قیام کے لیے درکار بنیادی ڈھانچہ، انتظامی مرکز، سامان کی ہینڈلنگ، ذخیرہ اور نقل و حمل کے لیے بنیادی ڈھانچہ بشمول گودام، کنٹینرز ڈیپوز، سامان کی ذخیرہ اندوزی اور ترسیل کے لیے کینیوینز اور مال برداری اور مسافروں کی نقل و حمل، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور سہولت کی فراہمی اس میں لیکن ان تک محدود نہیں، بجلی، پانی اور لینڈ پورٹ کی فعالیت کے لیے درکار بنیادی ڈھانچہ اور اس ایکٹ کے احکامات کو نافذ کرنا شامل ہے۔
- (ک) ”زمین“ میں عمارات اور لینڈ اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں سے پیدا ہونے والے یا

زمین سے منسلک کسی بھی چیز سے مستقل طور پر وابستہ فوائد شامل ہیں؛

(ل) ”لینڈ پورٹ“ سے کوئی بھی لینڈ محصولات اسٹیشن، سرحدی گزرگاہ مقام، یا کوئی بھی ایسا

علاقہ مراد ہے جو پاکستان میں سامان، گاڑیوں اور مسافروں کو ٹریمنٹل خدمات اور سہولیات کے ساتھ پاکستان میں انضباطی داخلے یا روانگی کی سہولت فراہم کرتا ہے یا اس کا اس طرح کی سہولت فراہم کرنے کا ارادہ ہے جیسا کہ دفعہ ۱۸ کے تحت اعلان کیا گیا ہے؛

(م) ”لینڈ محصولات اسٹیشن“ سے کوئی بھی لینڈ محصولات اسٹیشن مراد ہے جسے محصولات ایکٹ،

۱۹۶۹ء (نمبر ۴۳ بابت ۱۹۶۹ء) درآمد یا خشکی یا اندرون ملک آبی گزرگاہوں سے برآمد کرنے کے لیے کلیئرنس کے لیے مقرر کیا گیا ہے؛

(ن) ”لینڈ پورٹ آپریشنز“ سے سامان ہینڈلنگ، ذخیرہ اور نقل و حمل و سہولیات مراد ہیں جو کسی

لینڈ پورٹ کے آپریشنز کی تعمیل کے لیے ضروری ہیں اور اس طرح کے دیگر آپریشنز شامل ہیں جیسا کہ قواعد کی رو سے مقرر کیا گیا ہو؛

(س) ”لینڈ پورٹ آپریٹر“ سے وہ شخص یا تنظیم جو لائسنس یافتہ ہو یا اس ایکٹ کے تحت لینڈ

پورٹ آپریشنز کی تعمیل کے لیے معاہدے کے تحت عمل پیرا ہو، مراد ہے؛

(ع) ”انصرامی ڈائریکٹر“ سے دفعہ ۱۰ کے تحت مقرر کردہ اتھارٹی کا چیئر پرسن مراد ہے؛

(ف) ”رکن“ سے گورننگ کونسل، اتھارٹی یا انتظامی بورڈ کے اراکین، جیسی بھی صورت ہو، مراد ہے؛

(ص) ”انتظامی بورڈ“ سے دفعہ ۲۰ کے تحت تشکیل کردہ لینڈ پورٹ انتظامی بورڈ مراد ہے؛

(ق) ”شخص“ سے بشمول اشخاص کی انجمن یا مشترکہ لائحہ عمل، خواہ سند یافتہ جماعت یا دوسری

صورت میں، ارادہ، فرم، سرکاری یا نجی متعلقہ کمپنی، کارپوریشن، محکمہ، تنظیم ایجنسی، اتھارٹی یا

ہیئت جسد یہ مراد ہے جو وفاقی حکومت یا جیسی بھی صورت ہو کسی صوبائی حکومت کی جانب

سے قائم یا زیر نگرانی ہو؛

(ر) ”مقرر کردہ“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قواعد یا ضوابط کی رو سے مقرر کردہ مراد ہے؛

(ش) ”صدر“ سے گورننگ کونسل کا صدر مراد ہے؛

(ت) ”ضوابط“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کیے گئے ضوابط مراد ہیں؛

(ث) ”قواعد“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قواعد مراد ہیں؛

(خ) ”سیکرٹری“ سے اتھارٹی کا سیکرٹری مراد ہے؛ اور

(ذ) ”خدمات فراہم کنندہ“ سے حکومتی اداروں اور لینڈ پورٹ آپریٹرز کے علاوہ تمام اشخاص مراد ہیں جو لینڈ پورٹس پر نوڈ کیئرنگ، صحت، تفریحی سہولیات اور دیگر عمومی سہولیات سے متعلق خدمات فراہم کرتے ہیں۔

۳۔ اتھارٹی:- (۱) اس ایکٹ کے آغاز نفاذ پر، اس ایکٹ کی اغراض کی تعمیل کرنے کے لیے ایک اتھارٹی قائم کی جائے گی جسے پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔

(۲) اتھارٹی ایک ہیئت جسدیہ ہوگی جو دائمی جانشینی اور مہر عام کی حامل ہوگی جو منقولہ وغیرہ منقولہ دونوں قسم کی املاک کو خریدنے، حاصل کرنے، فروخت کرنے، تبادلہ کرنے قبضے میں رکھنے، واگزار اور تصرف میں کرنے نیز اس میں انتفاع رکھنے کی حامل ہوگی اور وہ اپنے نام سے یا اس کے خلاف استغاثہ دائر کیا جاسکے گا۔

(۳) اتھارٹی کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہوگا۔ اتھارٹی ایسے دیگر مقامات پر علاقائی دفاتر قائم اور فعال کر سکے گی جیسا کہ اتھارٹی وقتاً فوقتاً مقرر کرے۔

## باب - دوم

### اتھارٹی کی تشکیل اور قیام

۴۔ گورننگ کونسل:- (۱) اس ایکٹ کے آغاز نفاذ پر، وزیر اعظم پاکستان اتھارٹی کی ایک گورننگ کونسل کی تشکیل کرے گا، جو حسب ذیل اراکین پر مشتمل ہوگی، یعنی:-

- |                              |       |
|------------------------------|-------|
| (الف) انتظامی ڈویژن کا وزیر  | - صدر |
| (ب) انتظامی ڈویژن کا سیکرٹری | - رکن |
| (ج) سیکرٹری وزارت تجارت      | - رکن |
| (د) سیکرٹری وزارت مواصلات    | - رکن |
| (ه) سیکرٹری وزارت دفاع       | - رکن |
| (و) سیکرٹری محصولات ڈویژن    | - رکن |

- (ز) سیکرٹری، وزارت منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات - رکن
- (ح) سیکرٹری، وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق - رکن
- (ط) میٹنگ ڈائریکٹر - رکن
- (ی) ڈائریکٹر جنرل وفاقی تحقیقاتی ایجنسی - رکن
- (ک) چیف ایگزیکٹو، تجارت فروغ اتھارٹی پاکستان - رکن
- (ل) رکن کسٹمز (آپریشنز) - رکن
- (م) صدر وفاق پاکستان ایوان صنعت و تجارت یا اس ایوان  
صنعت و تجارت سے نامزد کردہ کوئی شخص - رکن
- (ن) معاشی ماہر - رکن
- (س) قانونی ماہر - رکن
- (ع) ایڈیشنل سیکرٹری سرحدی انصرام ونگ - سیکرٹری

(۲) گورننگ کونسل اراکین کی اتنی تعداد کو اس طریقے سے اور ایسی قابلیت کے ساتھ ایسے شرائط و ضوابط پر منتخب کر سکے گی جیسا کہ ضوابط کی رو سے مقرر کیا گیا ہو۔

۵۔ گورننگ کونسل کے اجلاس:- (۱) صدر گورننگ کونسل کے اجلاس کم از کم سال میں دو بار ایسے اوقات اور مقام پر طلب کر سکے گا جیسا کہ اس کی جانب سے مقرر کیا جائے یا اس کی ہدایت پر، میٹنگ ڈائریکٹر مذکورہ اجلاس طلب کر سکے گا۔

(۲) گورننگ کونسل کے اجلاس کا کورم کل اراکین کی تعداد کا نصف ہوگا۔  
مگر شرط یہ ہے کہ صدر اور میٹنگ ڈائریکٹر کی عدم موجودگی میں گورننگ کونسل کا کوئی بھی اجلاس منعقد نہیں کیا جائے گا۔

(۳) گورننگ کونسل کے فیصلے موجود اراکین کی اکثریت رائے کی بناء پر کیے جائیں گے۔

(۴) صدر یا اس کی عدم موجودگی میں، میٹنگ ڈائریکٹر گورننگ کونسل کے اجلاسوں کی صدارت کرے گا۔

(۵) صدر کسی بھی متعلقہ شخص کو، گورننگ کونسل کے اجلاس میں کسی مخصوص لائحہ عمل کے آئٹم پر جو اس

اجلاس میں زیر غور ہو، شرکت کے لیے مدعو کر سکے گا۔

(۶) ایسی پابندیوں کے مطابق جن کی صراحت کی گئی ہو، صدر، کسی معاملے کی منظوری گورننگ کونسل کے کسی بھی اختیار یا معاہدے کو استعمال کر سکے گا جو گورننگ کونسل کے دائرہ اختیار میں آتا ہو؛ مگر شرط یہ ہے کہ صدر کی طرف سے استعمال کردہ کسی بھی اختیار یا جاری کردہ حکم کو گورننگ کونسل کے اگلے اجلاس میں مناسب فیصلے کے لیے پیش کیا جائے گا۔

(۷) گورننگ کونسل کا کوئی بھی عمل یا کارروائی محض اس بناء پر کہ گورننگ کونسل کی تشکیل میں کسی بھی اسامی کے خالی ہونے پر یا اس میں کوئی بھی غلطی ہونے کی بناء پر غیر قانونی نہیں ہوگی۔

(۸) اس ایکٹ کے احکامات مطابق، گورننگ کونسل کو اپنے امور کے طریقہ کار اور طرز عمل کو منضبط کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔

۶۔ گورننگ کونسل کے اختیارات اور کارہائے منصبی :- (۱) گورننگ کونسل اس ایکٹ کے تحت کارہائے منصبی کو انجام دینے کی غرض کے لیے اتھارٹی کی مجموعی نگرانی کے لیے ذمے دار ہوگی۔

(۲) بالخصوص اور متذکرہ بالا کی عمومیت کے ساتھ متناقص ہوئے بغیر، گورننگ کونسل حسب ذیل امور انجام دے گی۔

- (الف) اتھارٹی کے امور کا جائزہ، نگرانی اور نظر ثانی کرے گی؛
- (ب) حکومت کی جانب سے ضروری پالیسی اقدامات پر غور کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرے گی؛
- (ج) اتھارٹی کو اس ایکٹ کے تحت اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی کے لیے حکمت عملی اور ہدایات فراہم کرے گی۔
- (د) اتھارٹی کے منصوبہ جات اور اقدامات کا جائزہ لے گی؛
- (ه) اتھارٹی کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ ایسے طریقہ کار میں لے گی جیسا کہ ضوابط کی رو سے صراحت کیا گیا ہو؛
- (و) اتھارٹی کے سالانہ بجٹ کا جائزہ لے گی اس کو منظور کرے گی، اور ضوابط کی رو سے صراحت کردہ طریقہ کار سے اس کے شفاف استعمال کو یقینی بنائے گی؛ اور
- (ز) ایسے دیگر امور انجام دے گی جیسا کہ اس ایکٹ کے تحت اس تفویض کیے گئے ہوں۔

(۳) گورننگ کونسل وقتاً فوقتاً مقرر کردہ طریقہ کار میں کمیٹیوں اور ذیلی کمیٹیوں کی تشکیل کر سکے گی اور ان کو ایسے اختیارات اور کارہائے منصبی تفویض کر سکے گی، جیسا کہ گورننگ کونسل مناسب متصور کرے۔

(۴) گورننگ کونسل، ایسی شرائط و قیود کے مطابق جیسا کہ صراحت کردی گئی ہو، اپنے کسی کارہائے منصبی کو اتھارٹی، یا اس کے کسی رکن کو تفویض کر سکے گی۔

(۵) اس ایکٹ کے تحت گورننگ کونسل کی جانب سے کیا گیا فیصلہ، لینڈ پورٹس کی پیروی کرنے کے لیے سرکاری اداروں پر واجب التعمیل ہوگا۔

## ۷۔ اتھارٹی کی تشکیل :- اتھارٹی حسب ذیل اراکین پر مشتمل ہوگی، یعنی :-

(الف) میونگ ڈائریکٹر - چیئر پرسن

(ب) ایڈیشنل سیکرٹری انتظامی ڈویژن - رکن

(ج) ایڈیشنل سیکرٹری وزارت دفاع - رکن

(د) ایڈیشنل سیکرٹری وزارت تجارت - رکن

(ه) چیئر مین، قومی شاہراہ اتھارٹی - رکن

(ز) ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز، ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ - رکن

(ح) ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل امیگریشن، ایف آئی اے - رکن

(ط) ڈائریکٹر، پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی - سیکرٹری

(۲) اتھارٹی، جیسا کہ مناسب متصور کرے، کو آپٹ لاجسٹکس اور سپلائی چین پروفیشنلز یا کسی دوسرے

متعلقہ شخص بطور رکن، وقتاً فوقتاً، ایسے طریقے کار میں اور ایسی شرائط و قیود پر مقرر کرے گی جیسا کہ صراحت کردی گئی ہو۔

(۳) میونگ ڈائریکٹر اتھارٹی کا چیف ایگزیکٹو اور پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہوگا اور اتھارٹی کے کارہائے منصبی

کی تعمیل کا ذمہ دار ہوگا۔

## ۸۔ اتھارٹی کے اجلاس :- (۱) چیئر پرسن اتھارٹی کے اجلاس ایسے اوقات میں اور ایسے مقام

پر طلب اور ان کی صدارت کر سکے گا جیسا کہ صراحت کردی گئی ہو، اس کی عدم موجودگی میں انتظامی ڈویژن کا ایڈیشنل

سیکرٹری اجلاس طلب اور صدارت کر سکے گا۔

- (۲) اتھارٹی کے اجلاس کا کورم کل اراکین کی اکثریت ہوگا اور اتھارٹی کے تمام احکامات اور فیصلے موجود اراکین کی اکثریت رائے کی بناء پر کیے جائیں گے، اور سیکرٹری کی جانب سے تحریراً قلمبند کیے جائیں گے۔
- (۳) اگر بر بنائے عہدہ رکن اجلاس میں شرکت سے قاصر ہو تو، وہ اپنے کسی افسر کو، جو بنیادی شرح اسکیل۔۔ ۲۰ سے کم نہ ہو، اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے مجاز کر سکے گا۔
- (۴) اتھارٹی کوئی بھی کارروائی، اجلاس، یا فیصلہ محض اس بناء پر زیر بحث نہیں لایا جائے گا یا غیر قانونی قرار نہیں ہوگا کہ اتھارٹی کی تشکیل میں کسی اسامی کے خالی یا اس میں کوئی غلطی ہے۔

#### ۹۔ اتھارٹی کے اختیارات اور کارہائے منصبی :- (۱) اتھارٹی اس ایکٹ کی اغراض

- کے حصول کے لیے ضروری اختیارات کو استعمال اور کارہائے منصبی کی ادائیگی کرے گی۔
- (۲) بالخصوص اور ذیلی دفعہ (۱) کی عمومیت کے ساتھ تناقص ہوئے بغیر اتھارٹی کو حسب ذیل امور کی نسبت اختیار حاصل ہوگا۔

(الف) پورٹ لینڈ کو تیار کرنا، ان کا نظم و نسق اور انتظام کرنا اور تجارت اور سرحدی کنٹرول کی سہولت

کے لیے لینڈ پورٹس پر ضابطہ عمل کے اختیارات استعمال کرنا؛

(ب) لینڈ پورٹ آپریٹرز کی کارکردگی کا معائنہ، نگرانی اور انتظام کرنا؛

(ج) لینڈ پورٹس پر مصروف عمل یا تعینات حکومتی اداروں کے ساتھ نگرانی اور تعاون کرنا؛

(د) حکومتی اداروں کے ساتھ ہم آہنگی میں لینڈ پورٹس پر سامان کی فوری کلیئرنس کرنے کے لیے

اقدامات کرنا اور ان پر عملدرآمد کرنا، اور حکمت عملی مرتب کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ

اپنے کارہائے منصبی کی تعمیل کے لیے طریقہ کار وضع کرنا؛

(ه) لینڈ پورٹ آپریٹرز کے لیے کسی بھی تجارتی سہولت کے لیے لائسنس، جاری کرنا، معاہدات

اور اقرارناموں کو منظور کرنا، تسلیم کرنا، معطل اور منسوخ کرنا؛

(و) غیر ملکی پورٹس کے حکام، بین الاقوامی تنظیموں اور مقررہ ہم منصوبوں کے ساتھ رابطہ اور

مواصلت قائم رکھنا؛

(ز) تربیتی پروگرامز، سیمینارز، ورکشاپس کا انعقاد اور ان کو فروغ دینا اور لینڈ پورٹس کی فعالیت کو

بہتر بنانے کے لیے ورکنگ گروپس کی تشکیل کرنا؛

- (ح) تجارت کو فروغ دینا اور لینڈ پورٹس پر اور اس کے پار پاکستان کے قومی اور تزیوراتی مفادات کا تحفظ کرنا؛
- (ط) مارکیٹ اکانومی کے تحت نقل و حرکت کے اخراجات اور دیگر متعلقہ مصارف کو بہتر بنانے کے عمل کو سہل کرنا؛
- (ی) اس ایکٹ کے تحت فیسیوں، واجبات، مصارف، کرایے اور دیگر قوم کا تعین کرنا، عائد کرنا، لگانا، جمع کرنا یا جمع کرنے کا موجب ہونا؛
- (ک) لینڈ پورٹ پر مسافروں کی سہولت کے لیے کولڈ سٹوریجز، قریطینہ سہولیات، سرٹیفیکیشن لیبارٹریز، ہوٹلز، رہائشی عمارتیں، ریسٹورانٹس، دکانیں، آرام گاہیں اور دیگر تفریحی مراکز قائم کرنا یا ضرورت کے مطابق کوئی دوسری سہولت فراہم کرنا؛
- (ل) لینڈ پورٹس کی ترقی اور موثر فعالیت کے لیے ساز و سامان اور پینادی ڈھانچے کی منظوری دینا؛ سسٹمز اور فریم ورک نافذ کرنا؛
- (م) اس ایکٹ کی اغراض کی تعمیل کے لیے مربوط کاروباری عمل، پورٹ کمیونٹی سٹم اور جامع سرحدی آر پار مال برداری انتظامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی نظام کو مرتب اور اس کو بروئے کار لانا؛
- (ن) تجارتی دوستانہ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے لینڈ پورٹس پر آسان کاروبار کرنے کے لیے پروگرامز کی تعمیل اور آسانی بہم پہنچانا؛
- (س) اس ایکٹ کی اغراض کی تعمیل کرنے کے لیے اراضی و املاک نیز اس میں مفادات کو خریدنا، حصول، تصرف اور فروخت کرنا؛
- (ع) ٹرمینل خدمات و سہولیات کی موثر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے لینڈ پورٹس پر لینڈ پورٹ انتظامی نظام سمیت بنیادی ڈھانچے کی خریداری، تنصیب، دیکھ بھال اور جدیت کاری کرنا؛
- (ف) لینڈ پورٹس کی حدود میں سڑکوں، ٹرمینلز اور بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی، تعمیر اور دیکھ بھال کرنا تاکہ احسن طریقے سے کام کو یقینی بنایا جاسکے؛
- (ص) اس ایکٹ کی اغراض کی تعمیل کے لیے کسی بھی اسکیم کو مرتب کرنا، اس کو منظور کرنا، اس پر

عملدرآمد کرنا اور کسی بھی کام کی ذمہ داری لینا؛

(ق) اس ایکٹ کی اغراض کی تعمیل کے لیے انفرادی طور پر مشترکہ شراکت یا سرکاری نجی شراکت داری کے ذریعے مقامی اور بین الاقوامی اداروں، سرکاری اداروں اور نجی شعبے کے ساتھ کسی بھی تجارتی کام یا منصوبے کی منصوبہ بندی کرنا، اس کو بہتر بنانا اور اس کی ذمہ داری لینا؛

(ذ) اس کی اغراض کی تعمیل کے لیے ایجنسیوں، کمپنیوں، ذیلی اداروں، ٹرسٹس، سوسائٹیز، ایسوسی ایشنز، مشترکہ منصوبہ جات (خواہ معاہداتی یا تشکیل یافتہ) یا کوئی دیگر مشترکہ منصوبوں کا انتظام کرنا؛

(ش) اس ایکٹ کے تحت اپنے کارہائے منصبی سے متعلق تحقیقات، سروے، چھان بین یا فزیبلٹی اسٹڈیز کو بجالانا اور اپنے کارہائے منصبی سے متعلق تحقیقات میں تعاون کرنا، تعمیل کرنا اور تحقیقات سے حاصل ہونے والی معلومات کو شائع کرنا؛

(ت) اتھارٹی کی اغراض کی تعمیل کے لیے اراضی حاصل کرنا اور کسی بھی منقولہ یا غیر منقولہ املاک کو پٹے پر دینا، خریدنا، حاصل کرنا، فروخت کرنا، تبادلہ کرنا، رہن رکھنا یا کرایے پر دینا یا بصورت دیگر فروخت کرنا؛

(ث) اتھارٹی اس ایکٹ کے تحت اپنے امور کی تعمیل کے لیے وفاقی حکومت کے قابل اطلاق پالیسی امور کے مطابق، مستعار الخدمت یا عارضی بنیاد پر، سرکاری اداروں کے افسروں یا عملے کے اراکین کو باضابطہ درخواست پر طلب یا خدمت حاصل کر سکے گی؛

(خ) قرضہ جات، سرمایہ کاریوں، اثاثہ جات کو پٹے پر دے کر یا کسی بھی دیگر ذرائع جن کی ضوابط کے ذریعے صراحت کر دی گئی ہو فنڈز اکٹھے کر سکے گی اور اس ایکٹ کی اغراض کو پورا کرنے کے لیے ضروری اخراجات کی ذمہ داری لے سکے گی؛ اور

(ز) اس سے منسلک یا اس کے ذیلی دیگر کارہائے منصبی کو انجام دے سکے گی۔

(۳) اتھارٹی اس ایکٹ کی اغراض کے لیے، وقتاً فوقتاً، ضوابط کی رو سے صراحت کردہ طریقہ کار میں،

کمیٹیوں اور ذیلی کمیٹیوں کی تشکیل کر سکے گی۔

(۴) اتھارٹی، ایسی شرائط و پابندیوں کے مطابق جیسا کہ قواعد کی رو سے صراحت کر دے دی گئی ہوں، میئنگ ڈائریکٹر کو اپنا کوئی بھی کارہائے منصبی تفویض کر سکے گی۔

(۵) اتھارٹی تمام انتظامی، عاملانہ اور مالی اختیارات استعمال کر سکے گی اور تمام امور انجام دے گی جو، اس ایکٹ کے غرض کے لیے اتھارٹی کی جانب سے استعمال یا کیے جانا مطلوب ہوں۔

۱۰۔ میئنگ ڈائریکٹر کی تقرری:- وزیر اعظم کی جانب سے اتھارٹی کے میئنگ ڈائریکٹر کی تقرری

کی جائے گی جو بنیادی شرح اسکیل - ۲۲ میں خدمات انجام دے رہا ہوگا یا اس حیثیت سے خدمات دے چکا ہوگا جو ایسی قابلیت، تجربے کا حامل ہوگا اور ایسی شرائط و قیود پر تقرر کیا جائے گا جیسا کہ قواعد کی رو سے صراحت کر دی گئی ہو۔

۱۱۔ میئنگ ڈائریکٹر کے اختیارات اور کارہائے منصبی:- (۱) میئنگ ڈائریکٹر اتھارٹی کے امور

سے متعلق ایسے انتظامی، آپریشنل اور مالی اختیارات استعمال کرے گا، جیسا کہ اس ایکٹ کے تحت اتھارٹی کی جانب سے اس کو تفویض کیے جائیں۔

(۲) بالخصوص اور ذیلی دفعہ (۱) کی عمومیت سے متناقص ہوئے بغیر، میئنگ ڈائریکٹر حسب ذیل امور انجام دے گا۔

(الف) گورننگ کونسل کی طرف سے جاری کردہ خطوط کے مطابق اتھارٹی کے روزمرہ امور کا انتظام کرے گا؛

(ب) ایسی شرائط و قیود پر اتھارٹی میں ڈائریکٹر جنرل کی تقرری کرے گا جیسا کہ صراحت کر دی گئی ہو، جو ایسے کارہائے منصبی انجام دے گا جیسا کہ میئنگ ڈائریکٹر اس کو تفویض کرے گا؛

(ج) گورننگ کونسل کی جانب سے جاری کردہ ہدایات و رہنما خطوط پر عملدرآمد کو یقینی بنائے گا؛

(د) لینڈ پورٹ انتظامی بورڈ کے کنٹرولر کے اختیارات کا جب اور جہاں اتھارٹی کی طرف سے حکم دیا جائے استعمال کرے گا ان وجوہات کو قلمبند کیا جائے گا؛

(ه) اتھارٹی کے افسران، اراکین عملہ و دیگر ملازمین کا انتظام و نگرانی کر سکے گا؛

(و) کسی بھی کام یا کارہائے منصبی کی ادائیگی کرے گا جو اسے اس ایکٹ کے تحت تفویض یا حوالے کیے گئے ہوں؛

(ز) اس ایکٹ کی اغراض کے لیے تمام سرگرمیوں جو اس سے منسلک یا اس سے متعلقہ ہوں انجام دے گا۔

(۳) میجنگ ڈائریکٹر، یا تو بذات خود یا اس ضمن میں اس کی جانب سے نامزد کردہ کوئی بھی افسر، اتھارٹی کی جانب سے مراست کرے گی اور کسی بھی فورم پر تمام درخواستوں، معاہدوں اور اس طرح کی دیگر قانونی دستاویزات پر دستخط، تصدیق، پیروی اور اندراج کر سکے گا۔

(۴) اتھارٹی کے مؤثر انتظام کے لیے، گورننگ کونسل کی منظوری سے میجنگ ڈائریکٹر، وقتاً فوقتاً، ایسی قیود کے تابع جیسا کہ صراحت کر دی گئی ہو، اتھارٹی کے کسی بھی رکن یا افسر کو اپنے کوئی بھی اختیار یا کارہائے منصبی میں سے کوئی تفویض کر سکے گی۔

۱۲۔ اتھارٹی کے تحت ملازمت:- (۱) اتھارٹی، وقتاً فوقتاً، کسی بھی شخص کی بطور ملازم، افسر،

سٹاف، ماہر، مشیر سرکاری ملازم کو مستعار الحزمت پر، یا ابتدائی بھرتی، کنٹریکٹ یا دیگر بناء پر ایسے طریقہ کار کے ذریعے اور اس کی ملازمت کی شرائط و ضوابط پر جیسا کہ ضوابط کی رو سے صراحت کر دی گئی ہو اس کی تقرری کر سکے گی اس کی خدمات حاصل کر سکے گی، اس کو ضم یا برطرف یا تبادلہ کر سکے گی جیسا کہ وہ مناسب متصور کرے۔

(۲) اتھارٹی، وقتاً فوقتاً، جیسا کہ مطلوب ہو، کسی بھی عہدے، اسامی یا نظامت کو قائم، تخلیق، اجازت، منظور، ختم، یا انضمام کر سکے گی۔

(۳) اتھارٹی کی جانب سے کسی بھی مستعار الحزمت پر سرکاری ملازم کے خلاف کسی بھی منفی نتیجہ تحقیقات کی صورت میں ایسی تحقیقات متعلقہ ادارے کو معاملے کے حل کے لیے ارسال کی جائیں گی، جن کا فیصلہ متعلقہ ادارہ اپنے متعلقہ قوانین اور اس کے تحت وضع کردہ قواعد کے تحت کرے گا۔

۱۳۔ ملازمین کا سرکاری ملازم ہونا:- اتھارٹی کے میجنگ ڈائریکٹر، اراکین، ملازمین، ڈائریکٹرز،

عملہ، عہدے داران، اور افسران، جب اس ایکٹ کے کسی بھی حکم کی پیروی میں عمل کر رہے ہوں یا اس کی منشاء میں کر رہے ہوں تو وہ، مجموعہ تعزیرات پاکستان، ۱۸۶۰ء (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعہ ۲۱ کے مفہوم میں سرکاری ملازمین متصور ہوں گے۔

## باب۔ سوم

## حکومتی اداروں کے ساتھ تعاون، تجارتی سہولت اور سرحدی نگرانی

۱۴۔ تعاون، تجارتی سہولت اور سرحدی نگرانی:۔ (۱) اس ایکٹ کے تحت کارہائے

منصبی کی ادائیگی کے لیے اتھارٹی پر لینڈ پورٹ کے اندر مختلف سرکاری اداروں کے لیے دفتری جگہ اور اراضی مہیا کرے گی اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کے امر کو یقینی بنائے گی۔

(۲) اتھارٹی تمام متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ اپنے کارہائے منصبی کی تعمیل اور سرحدی نگرانی میں تعاون کے لیے مکمل طور پر ذمے دار ہوگی، اور لینڈ پورٹس پر ایسے اداروں کو امور میں سہولت فراہم کرے گی۔

(۳) ذیلی دفعہ (۲) میں بیان کردہ اغراض کے لیے، اتھارٹی میٹری عملی طریقہ کار، ضابطہ فعالیت کا اجراء کرے گی اور حکومتی اداروں کے ساتھ، جہاں درکار ہو، معاہدات کرے گی۔

(۴) اتھارٹی مسلح افواج، کسٹم، ریجنل پولیس، سکیورٹی فورسز اور حکومتی اداروں کی معاونت سے لینڈ پورٹس پر امن و امان کو یقینی بنائے گی۔

(۵) اس ایکٹ کے کسی بھی حکم میں شامل کسی امر کے باوجود، حکومتی ادارے اپنے کارہائے منصبی اپنے متعلقہ قوانین کے تحت انجام دیں گے۔

(۶) اگر حکومتی اداروں کے مابین تعاون، رتبے یا ایک دوسرے کے مابین کردار اور فرائض منصبی کے حوالے سے کوئی بھی تنازعہ پیدا ہو تو، ایسے تنازعات اتھارٹی کی جانب سے طے کیے جائیں گے۔

(۷) اگر کوئی حکومتی ادارہ ذیلی دفعہ (۶) کے تحت تنازعات کے حل سے مطمئن نہ ہو تو، ایسا ادارہ معاملے کو گورننگ کونسل کو ارسال کر سکے گا، جو اس معاملے پر فوری فیصلہ کرے گی اور ایسا فیصلہ تمام سرکاری اداروں پر واجب العمل ہوگا۔

(۸) تجارتی سہولت، مربوط سرحدی انتظام، اداروں کے مابین تعاون، معیارات پر عملدرآمد، سامان کی جانچ پڑتال کے وقت میں کمی اور دیگر ادارہ جات کے مابین مسائل کے مقاصد کے لیے، فعالیت کارکردگی کی نسبت متعلقہ ادارہ جات کے کام کو مربوط کیا جائے گا۔

## باب - چہارم

### مفادات کا تصادم اور برطرف

۱۵۔ مفادات کا تصادم:- (۱) ہر رکن اپنے معاملات کا انتظام اور انصرام ایسے طریقہ کار میں کرے گا جو اس شخص کو اتھارٹی کے امور کے ساتھ تصادم مفادات، بلا واسطہ یا بالواسطہ، مالی یا دوسری صورت میں روکے، اور اس حوالے سے، ایسے طریقہ کار میں بیان دے گا جیسا کہ ضوابط کی رو سے صراحت کر دی گئی ہو۔

(۲) کوئی بھی شخص جو ذیلی دفعہ (۱) کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا اس حوالے سے کوئی جھوٹا یا غلط بیان جمع کراتا ہے تو، اس کے خلاف ایسے طریقہ کار میں کارروائی کی جائے گی جیسا کہ ضوابط کے تحت صراحت کر دی گئی ہو اس کے نتیجے سے برطرف بھی کیا جاسکے گا۔

۱۶۔ اراکین دیگر کاروبار نہیں کر سکیں گے:- اس ایکٹ کے تحت بر بنائے عہدہ اراکین کے علاوہ دیگر اراکین، اپنے متعلقہ عہدے کی مدت کے دوران، لینڈ پورٹ کے امور یا اس کے کسی بھی حصے میں مصروف عمل کسی بھی شخص یا ادارے کے ساتھ معاوضے یا منافع کے لیے شامل نہیں ہوگا۔

۱۷۔ رکن کی برطرفی، استعفیٰ وغیرہ:- (۱) کوئی بھی رکن، بر بنائے عہدہ اراکین کے علاوہ، تقرر کنندہ اتھارٹی کی جانب سے، اس کے دارے سے برطرف کیا جاسکے گا، اگر ایسا رکن۔

(الف) بد اطواری کا تصور وار ہو؛

(ب) نا اہل ہو یا اس ایکٹ کے تحت اپنی ذمے داریوں اور امور کو انجام دینے سے قاصر ہو جائے؛

(ج) کسی مجاز عدالت کی طرف سے دیوالیہ قرار دیا جائے؛

(د) اسے ملازمت کے لیے نا اہل قرار دیا گیا ہو، یا ایسے ملازمت پاکستان سے برخاست کر دیا

گیا ہو یا اسے مجاز اختیار سماعت کی عدالت نے اخلاقی پستی یا مالی غبن کے جرم میں سزا

صادر فرمائی ہو؛ یا

(ہ) نے فی الوقت نافذ العمل کسی بھی قانون کے تحت پلے بارگین کی ہو۔

(۲) اس ایکٹ کے تحت کوئی بھی رکن، بر بنائے عہدہ رکن کے علاوہ، اپنے عہدے سے تقرر کنندہ

اتھارٹی کے نام اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کے ذریعے مستعفی ہو سکے گا، اور ایسا استعفیٰ تاریخ منظوری سے مؤثر ہو جائے گا۔

## باب۔ پنجم

### لینڈ پورٹس کا اعلان اور اثاثہ جات و ذمے داروں کا تصفیہ

۱۸۔ لینڈ پورٹس کا اعلان:- (۱) اتھارٹی، وقتاً فوقتاً سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے، اس ایکٹ کی اغراض کے لیے کسی بھی لینڈ پورٹ کی حدود کا اعلان، وضاحت، تبدیل یا توسیع مذکورہ کی کسٹم ایکٹ، ۱۹۶۹ (نمبر ۴ بابت ۱۹۶۹ء) کے تحت باضابطہ طور پر مشتمل ہونے کے بعد، کر سکے گی۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت بیان کردہ حدود سڑکوں، شاہراؤں یا ریلوے یا اس کے کسی بھی حصے تک وسعت پذیر ہو سکتی ہے جو لینڈ پورٹ تک رسائی دیتی ہو، اور اس میں کوئی بھی بنیادی ڈھانچہ، گودام، شیڈ اور دیگر تنصیبات، یا دیگر تعمیرات شامل ہو سکتی ہیں جو لینڈ پورٹ کی بہتری، دیکھ بھال اور اچھے نظم و نسق سے متعلق سے مشروط ہیں۔

۱۹۔ اثاثہ جات اور واجبات:- (۱) اتھارٹی کے نوٹیفیکیشن کی تاریخ پر یا بعد ازاں کسی بھی وقت جیسا کہ مذکورہ نوٹیفیکیشن میں صراحت کی گئی ہو، لینڈ پورٹ سے متعلقہ تمام اراضی، عمارات، ساز و سامان اور جائیداد کی دیگر صورتیں، خواہ وہ حقیقی ہوں یا نجی، اور ان میں جملہ مفادات اس نوٹیفیکیشن کے اجراء یا مقررہ تاریخ سے فوری قبل، جیسی بھی صورت ہو، وفاقی حکومت کی ملکیت یا تصرف یا پٹے پر رکھے، ایسی قیود کے مطابق اگر کوئی ہوں وفاقی حکومت نے، ایسے نوٹیفیکیشن میں صراحت کی ہو، اتھارٹی کو تفویض ہو جائیں گی اور ایسی تفویض میں ایسے اثاثہ جات کے ضمن میں ذمے داریاں اور واجبات بھی شامل متصور ہوں گے؛ کے لیے اتھارٹی مذکورہ سرکاری ایجنسی کی جگہ ان قانونی کارروائیوں کے لیے متبادل ہوگی اور تبدیلی کی وجہ سے کارروائی غیر قانونی نہیں ہوگی۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت نوٹیفیکیشن متعلقہ سرکاری اداروں کی رضامندی کے بعد ازاں ہی جاری کیا جائے گا، اس صورت میں جہاں مذکورہ املاک ایسے کسی بھی سرکاری ادارے کی ملکیت یا نگرانی میں ہوں۔

(۳) اس ایکٹ میں شامل کسی بھی امر کے باوجود، گورننگ کونسل کی پیشگی تحریری اجازت کے علاوہ، اتھارٹی کو تفویض کوئی بھی اراضی اتھارٹی فروخت نہیں کرے گی۔

(۳) لینڈ پورٹس کے ضمن میں موجود کوئی بھی معاہدہ، اقرار نامہ، اور عملی انتظامات، دفعہ ۳ کے تحت اتھارٹی کے نوٹیفیکیشن کی تاریخ سے فوری قبل، اتھارٹی کی جانب سے ایسی ترمیمات اور موافقت یا عملدرآمد کے ساتھ حاصل کر لی جائیں گی جو اس ایکٹ کے احکامات کو موثر بنانے کے لیے ضروری ہوں۔

(۵) جہاں اس ایکٹ کی رو سے یا اس کے تحت کسی بھی کارہائے منصبی کی منتقلی کے وقت کوئی بھی قانونی کارروائی جو زیر تجویز ہو جس میں کوئی بھی سرکاری ایجنسی فریق ہو اور اس ایکٹ کی رو سے یا اس کے تحت منتقل کردہ امور سے متعلق ہو تو ایسی قانونی کارروائیاں، کے لیے اتھارٹی مذکورہ سرکاری ایجنسی کی جگہ ان قانونی کارروائیوں کے لیے متبادل ہوگی اور تبدیلی کی وجہ سے کارروائی غیر قانونی نہیں ہوگی۔

(۶) اگر کوئی ایسا امر درپیش ہو کہ آیا کوئی اثاثہ اتھارٹی کی ملکیت یا ذمے داری بن چکا ہے، تو ایسے امر کا فیصلہ وفاقی حکومت کی جانب سے کیا جائے گا۔

## باب - ششم

### لینڈ پورٹ انتظامی بورڈ

۲۰۔ لینڈ پورٹ انتظامی بورڈ:- اتھارٹی ہر لینڈ پورٹ کے لیے ایک انتظامی بورڈ کی تشکیل کرے گی جس میں حسب ذیل اراکین شامل ہوں گے، یعنی:-

- |   |                                   |                      |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| (الف) کنٹرول (حاضر الخدمت یا فارغ الخدمت بنیادی               | شرح اسکیل ۱۹ یا ۲۰ یا مساوی افسر) | - چیئر پرسن          |
| (ب) وفاقی تحقیقاتی ادارہ کا افسر                              |                                   | - رکن                |
| (ج) متعلقہ لینڈ پورٹ میں تعینات کسٹمر کا اسسٹنٹ یا ڈپٹی کلکٹر |                                   | - رکن                |
| (د) انسداد منشیات فورس کا افسر                                |                                   | - رکن                |
| (ه) سرحدی ٹریڈنگ آپریٹر                                       |                                   | - رکن                |
| (و) اتھارٹی کی جانب سے باضابطہ نامزد کردہ متعلقہ لینڈ پورٹ کی |                                   |                      |
| حفاظت کے لیے ذمے دار متعلقہ سول آرمڈ فورسز کا افسر            |                                   | - رکن - معہ سیکرٹری۔ |

(۲) انتظامی بورڈ، جیسا مناسب متصور کرے انتظامی بورڈ کے رکن کے طور پر متعلقہ سرکاری ادارے کے کسی بھی دوسرے افسر کی، اس غرض کے لیے اور ایسی مدت کے لیے جیسا کہ کنٹرولر مناسب متصور کرے، خدمات حاصل کر سکے گا۔

(۳) کنٹرولر انتظامی بورڈ کے امور کے انتظام کے ساتھ ساتھ اس ایکٹ کے تحت عطاء کردہ یا تفویض کردہ کارہائے منصبی کی تعمیل کا ذمہ دار ہوگا۔

(۴) انتظامی بورڈ ایسے وقت میں اور ایسے مقامات پر اور اس طریقہ کار میں اجلاس طلب کرے گا، جیسا کہ کنٹرولر کی جانب سے متعین کی جائے۔ کنٹرولر کی عدم موجودگی میں بورڈ کا سیکرٹری اجلاس کی صدارت کرے گا۔

(۵) انتظامی بورڈ کا ہر ہفتے میں کم از کم ایک بار اجلاس ہوگا۔

**۲۱۔ انتظامی بورڈ کے اختیارات اور کارہائے منصبی:-** انتظامی بورڈ، لینڈ پورٹ آپریٹر، خدمات فراہم کنندگان کی سرگرمیوں کی نگرانی اور ان کو منضبط کرے گا اور لینڈ پورٹ پر احسن طریقے سے امور کی انجام دہی کے لیے دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ تعاون کرے گا، اور سرحدی نگرانی کی تعمیل کے لیے اس ایکٹ کے احکامات کے مطابق عمل کرے گا۔

سیف صاحب۔

قومی سلامتی تجارتی تقاضوں اور اتھارٹی کی ہدایات کے مطابق انتظامی بورڈ بین الاقوامی تجارت میں سہولت فراہم کرے گا اور لینڈ پورٹ پر کلیدی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کو فی الوقت نافذ العمل قوانین کی قابل اطلاق احکامات کے تابع نافذ کرے گا انتظامی بورڈ متعلقہ لینڈ پورٹ کے بلا رکاوٹ کام کے لیے متعلقہ شراکت داروں سے بھی بات چیت کرے گا۔

(۳) علاوہ ان کے قابل اطلاق قوانین کے اگر کوئی ہوں تمام سرکاری ایجنسیاں لینڈ پورٹ کو چلانے والے اور خدمات فراہم کرنے والوں کو ہر ایک لینڈ پورٹ کی علاقائی حدود کے اندر اس ایکٹ کی دفعات کی پابندیاں کریں گے۔

**۲۲۔ ہدایات نافذ کرنے کا اختیار:-** (۱) کوئی بھی شخص جو اس ایکٹ کی دفعات کے تابع ہو؛ (الف) لینڈ پورٹ کی علاقائی حدود کے اندر لینڈ پورٹ کے عمل کاری کی کارکردگی کو نقصان پہنچاتا

ہے یاد ہو کہ وہی کار تکاب کرتا ہے؛

(ب) اس ایکٹ کی کسی بھی دفعات یا اس کے تحت وضع کردہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتا

ہے؛ یا

(ج) پاکستان میں فی الوقت نافذ العمل قوانین کے تحت تعزیری جرم کا الزام لگایا گیا ہو؛

ایسی تادیبی اور مالیاتی کارروائیوں کا مستوجب ہوگا جیسا کہ قواعد کے ذریعے صراحت کی جائیں۔

(۲) کوئی بھی شخص ذیلی دفعہ (۱) میں درج شدہ امور کی بابت کنٹرولر کو شکایت کر سکے گا۔

(۳) کنٹرولر خواہ اپنی یا ذیلی دفعہ (۲) کے تحت کسی شخص کی شکایت پر معاملے کو فوراً انتظامی بورڈ کے

سامنے رکھے گا۔

(۴) انتظامی بورڈ، اگر شکایت اتھارٹی کے کسی ملازم یا کسی لینڈ پورٹ بندرگاہ کے چلانے والے سے

متعلق ہو تو متعلقہ قصور وار کو سماعت کا موقع فراہم کرنے کے بعد تین دن کے اندر معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ جہاں

شکایت حکومت کی دیگر کسی ایجنسی کے شخص سے متعلق ہو تو معاملے کو حکومتی ایجنسی کے متعلقہ افسر کو ان کے متعلقہ قوانین

کے تحت نمٹانے کے لیے ارسال کیا جائے گا۔

(۵) جہاں شکایت انتظامی بورڈ کے سرپرست اعلیٰ کے خلاف موصول ہو چکی ہو تو اس سے اتھارٹی کے

رہبرورکھا جائے گا جو اس کا فیصلہ صراحت کردہ طریقہ کار میں سات دنوں کے اندر کرے گی۔

مگر شرط یہ ہے کہ اتھارٹی کا اس ذیلی دفعہ کے تحت فیصلہ حتمی ہوگا۔

## باب ہفتم

### اتھارٹی کی جانب سے معاہدات آؤٹ سورس اور لائسنس دینا

۲۳۔ اتھارٹی کی جانب سے معاہدات وغیرہ:- (۱) اتھارٹی کی جانب سے ہر معاہدہ میٹنگ

ڈائریکٹر کی جانب سے یا اتھارٹی کے دیگر ایسے افسر کی جانب سے وضع کیا جائے گا جیسا کہ عام طور پر یا خاص طور پر

اتھارٹی کی جانب سے اس واسطے اختیار دیا گیا ہو اور اتھارٹی کی مہر عام کے ذریعے مثبت مہر کیا جائے گا۔

(۲) اتھارٹی کسی بھی شخص، کمپنی، ایجنسی، اتھارٹی یا قومی یا بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ کسی بھی

معاہدہ میں شریک ہو سکے اور لینڈ پورٹ آپریشن اور اس کے کسی بھی کارہائے منصبی یا سرگرمیوں بشمول ترقیاتی کاموں کو

کسی بھی طریق عمل کے ذریعے بشمول سرکاری نجی شراکت داری کے آؤٹ سورس کر سکے گی۔

مگر شرط یہ ہے کہ لینڈ پورٹ کی عمل کاری صرف ایسے لینڈ پورٹ کے چلانے والوں کو آؤٹ سورس کیا جاسکے گا جو کٹم ایکٹ ۱۹۶۹ء (نمبر ۴ بابت ۱۹۶۹ء) کی دفعات اور اس کے تحت وضع کردہ قواعد کے تحت رجسٹرڈ ہو۔

(۳) دیگر کسی قانون میں شامل کسی بھی شے کے باوصف اتھارٹی قواعد کے ذریعے لینڈ پورٹ کو چلانے

والوں اور سروسز فراہم کرنے والوں کے انتخاب کے لیے معیار مقرر کر سکے گی اور بحسبہ ہی معاہدات تفویض کر سکے گی۔

(۴) کارہائے منصبی کی کارکردگی اور سرگرمیوں کو عمل میں لانے کے لیے اتھارٹی اس ایکٹ کے تحت کسی

بھی صارف کی فیس، واجبات، یا وصولیوں کا حق اور وصولی کسی ایسے نجی ہیئت، چلانے والے یا ادارے کو تفویض آؤٹ سورس یا پٹے پردے کر سکے گی۔

(۵) سرکاری نجی شراکت داری اتھارٹی ایکٹ ۲۰۱۷ء (نمبر ۸ بابت ۲۰۱۷ء) کی شرائط اور اس کے

تحت وضع کردہ قواعد و ضوابط کے تحت گورننگ کونسل قواعد کے ذریعے اس ایکٹ کے تحت سرکاری نجی شراکت داری کی ضمانت کے لیے طرز عمل، طریقے اور طریقہ کار صراحت کر سکے گی۔

(۶) سرکاری فراہمی انضباطی اتھارٹی آرڈیننس ۲۰۰۲ء (نمبر ۲۲ مجریہ ۲۰۰۲ء) کی شرائط کی

مطابقت میں اور اس کے تحت وضع کردہ قواعد و ضوابط کے تحت گورننگ کونسل قواعد کے ذریعے اس ایکٹ کے تحت سرکاری نجی شراکت داری کی ضمانت کے لیے طرز عمل، طریقے اور طریقہ ہائے کار صراحت کر سکے گی۔

۲۴۔ لائسنس عطاء کرنا:۔ (۱) تا وقتیکہ دفعہ ۲۳ کے تحت کوئی معاہدہ تحریر میں نہ لایا گیا ہو کوئی بھی

شخص یا ہیئت لینڈ پورٹ کے آپریشن سے متعلق سروسز یا لینڈ پورٹ پر کوئی سروسز فراہم نہیں کر سکے گا یا اس ایکٹ کے تحت کوئی کارہائے منصبی انجام نہیں دے سکے گا بصورت دیگر صراحت کردہ قواعد کے تحت اس کو جاری کردہ لائسنس کے لحاظ سے۔

(۲) اس ایکٹ کے تحت شامل کردہ شرائط سے مشروط اور موجودہ قوانین کی مطابقت میں یا ایسے طریقہ

کار میں جیسا کہ صراحت کیا جائے اتھارٹی لینڈ پورٹ کے آپریشن کے کسی جز کو عمل میں لانے کے لیے کسی بھی شخص کو لائسنس جاری کرنے، تسلیم کرنے، تجدید کرنے، توسیع دینے، تبدیل کرنے، ترمیم کرنے، معطل کرنے، نظر ثانی کرنے، منسوخ کرنے دوبارہ جاری کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔

## باب- ہشتم

### جرائم

۲۵۔ جرائم:- (۱) کوئی بھی شخص جو دانستہ طور پر۔

(الف) اس ایکٹ کے تحت ادراک کردہ کسی بھی سرگرمیوں کو بغیر کسی جائز لائسنس یا معاہدے کے

انجام دیتا ہے؛

(ب) لینڈ پورٹ کے آپریشنز کی اجازت کے بغیر مداخلت کرنے، رکاوٹ ڈالنے یا بوجھ ڈالنے

کی نیت سے کوئی عمل انجام دینا ہے؛

(ج) لینڈ پورٹ کے اندر یا پورے پر اشخاص، اشیاء اور سروسز کے قانونی تبادلے میں

دھوکہ دہی کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے؛

(د) لینڈ پورٹ، لینڈ پورٹ کے چلانے والوں یا سروسز فراہم کرنے والوں کو یا اس میں

تنصیبات بنیادی ڈھانچے یا اس کے کسی بھی حصے کو جسمانی نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے

تو وہ اس ایکٹ کے تحت تین سال تک سزائے قید اور دو کروڑ روپے تک جرمانے کی سزا کا

مستوجب ہوگا۔

مگر شرط یہ ہے کہ اس ایکٹ کے تحت جرمانہ اور سزائی الوقت نافذ العمل دیگر کسی قانون کے تحت فراہم کردہ

سزا اور جرمانے کے علاوہ ہوگا۔

(۲) کوئی بھی شخص جو اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کی کوشش کرتا ہے یا مدد کرتا ہے، اعانت کرتا ہے، مشورہ

دیتا ہے یا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایسی سزا کا مستوجب ہوگا، جو اس طرح مدد کرنے، اعانت کرنے، مشورہ دینے یا فراہم

کرنے پر اس کے لیے فراہم کی گئی ہو۔

(۳) ذیلی دفعہ (۱) اور (۲) کی شرائط فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی قانون کی تخفیف پر اور علاوہ ہوں گی۔

۲۶۔ جرائم کی اختیار سماعت:- بجز اس کے کہ دیگر کسی قانون میں کچھ اور مذکورہ ہو کوئی بھی عدالت اس

ایکٹ کے تحت کسی جرم کی سماعت نہیں کرے گی، ماسوائے اتھارٹی اس کی جانب سے اس واسطے مجاز کردہ شخص کی

جانب سے تحریری طور پر مجاز اختیار سماعت کی عدالت کو شکایت وضع نہیں کی گئی ہو۔

## باب۔ نہم کلیدی مدد

۲۷۔ کلیدی مدد:- (۱) اتھارٹی اس کے کارہائے منصبی کے مؤثر انجام دہی کے لیے نیز لینڈ پورٹ کے آپریشنز کی کارکردگی کو بڑھانے اور مؤثر بنانے کے لیے یا مفاد عامہ میں یا پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے لیے وفاقی حکومت یا کسی بھی ہیئت، کمپنی، کارپوریشن، جماعت، تنظیم، ایجنسی، عہدیدار یا آلہ کار متعلقہ حکومتوں کے کنٹرول میں ہے یا ملکیت میں ہے سے معاونت یا مدد طلب کر سکتی ہے اور اس کے کارہائے منصبی میں مدد فراہم کرنے کے لیے متعلقہ حکومت کی کسی بھی عہدیدار کو طلب کر سکتی ہے اور مذکورہ عہدیدار سے اس ایکٹ کے تحت اغراض اور کارہائے منصبی کے اغراض کی مطابقت میں کوئی بھی معلومات طلب کر سکتی ہے۔

(۲) تمام حکومتی ایجنسیاں لینڈ پورٹ کے آپریٹرز اور سروسز فراہم کرنے والے اتھارٹی کو ایسی معاونت فراہم کریں گے جیسا کہ اس ایکٹ کے تحت اتھارٹی کو اس کے کارہائے منصبی اور سرگرمیوں کی انجام دہی کے استعمال کے لیے درکار ہوں۔

(۳) اتھارٹی اس ایکٹ کے تحت اس کے کارہائے منصبی کو عمل میں لانے کے لیے وفاقی حکومت کی قابل اطلاق پالیسی رجیم کے مطابق سرکاری افسران یا عملے کو مستعار الحذمتی یا عارضی تبادلے کی بنیاد پر کام پر طلب کر سکتی ہے یا شامل کر سکتی ہے۔

۲۸۔ وفاقی حکومت کا پالیسی رہنما اصول جاری کرنے کا اختیار:- اتھارٹی وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ پالیسی رہنما اصول کی اس حد تک تعمیل کرنے کی پابند ہے کہ یہ اس ایکٹ کی شرائط سے متناقض نہ ہوں۔

## باب - دہم مالیاتی احکامات

۲۹۔ لینڈ پورٹس پرفیس، کرایہ وغیرہ وصول کرنے کی اتھارٹی:- (۱) اتھارٹی ہر ایک لینڈ پورٹ سے علیحدہ طور پر وقتاً فوقتاً ایسی شرح پر محصول عائد کرنے اور ایسی فیسیں، جرمانے، وصولیاں، کرایہ جات اور دیگر رقوم وصول کرنے کی مجاز ہوگی جیسا کہ ذیل ہیں۔

(الف) مال کی نقل و حمل اور بار برداری، سنورج، گودام میں رکھے وزن کرنے ٹرکوں رمال گاڑیوں کی پارکنگ فیسیں ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹ کے آپریشن کے سلسلے میں پیش کردہ کسی بھی سروس یا سہولت کے لیے؛

(ب) پارکنگ کی جگہ اور دیگر مقامات جو سوار یوں اور ملاقاتیوں کو دی گئی ہیں؛

(ج) اتھارٹی کی املاک کا تجارتی استعمال کی بابت خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ بشمول زمین، عمارت اور بنیادی ڈھانچے کے؛

(د) کسی بھی تسلیم، سروئے، معائنہ، اجازت، مجازیت لائسنس، منظوری خواہ جاری کیا گیا ہو یا تجدید کی گئی ہو اور اتھارٹی کی جانب سے فراہم کردہ دیگر کسی سروسز کے پیش کرنے کے سلسلے میں ادا کردہ فیسیں؛

(ہ) اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر سزا اور جمع کردہ جرمانے؛

(و) دیگر کوئی فیس یا محصول جو وقتاً فوقتاً صراحت کی جائے؛

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کی شقات (الف) اور (ب) کے تحت کسی بھی فیسوں یا وصولیوں کی منظوری سے قبل

اتھارٹی حکومت ایجنسیوں کی سفارشات پر غور کرے گی اور اس کو مشاورتی عمل میں مطلع کرنے سے کم سے کم دو ہفتے قبل سرکاری اور نجی شعبے سے اعتراضات طلب کرے گی۔

مگر شرط یہ ہے کہ اتھارٹی موصول شدہ اعتراضات کی پابند نہیں ہے۔

۳۰۔ استثناء اور موقوف کرنے کا اختیار:- خصوصی معاملات میں اتھارٹی گورنگ کونسل کی

منظوری سے دفعہ ۲۹ کے تحت فیسوں، واجبات وصولیوں کرایہ جات اور دیگر رقوم کو پورا یا کسی حصے کو ایسی شرائط پر

موقوف یا معاف کر سکے گی جیسا کہ مذکورہ منظوری میں صراحت کیا گیا ہو۔

۳۱۔ پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی فنڈ:۔ (۱) اس ایکٹ کے تحت آغاز و نفاذ پر ایک ناقابل

سوخت فنڈ تشکیل دیا جائے گا جو اتھارٹی کو عطاء ہوگا ”پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی فنڈ کہلائے گا“ جسے بعد ازیں بطور ”فنڈ“ حوالہ دیا جائے گا۔ اتھارٹی کی جانب سے اس ایکٹ کے تحت اس کے کارہائے منصبی کی انجام دہی کے لیے استعمال کیا جائے گا بشمول اتھارٹی کے میجنگ ڈائریکٹر، اراکین، ملازمین ماہرین اور مشیران کی تنخواہ کی ادائیگی کے؛

(۲) فنڈ کے ذرائع ذیل ہوں گے:

(الف) فنڈز، قرضے یا امدادیں جو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا مقامی ہیئتوں کی جانب سے

فراہم کی گئی ہوں؛

(ب) اتھارٹی کی جانب سے حاصل کردہ مقامی قرضے؛

(ج) بیرون پاکستان کسی بھی ذرائع سے حاصل کردہ غیر ملکی امدادیں اور قرضے؛

(د) اتھارٹی کی جانب سے بطور فیس، وصولیوں، کرایہ جات وغیرہ وصول کردہ تمام رقومات

اور دیگر پیسے جو اس ایکٹ کے تحت وصول یا جمع کئے گئے ہوں؛

(ه) اتھارٹی کے اثاثوں کو بیچنے اور فروخت سے آمدن؛

(و) بانڈز، سکوک اور دیگر قسم کی مالیات سے شراکت داری معیار سرٹیفکیٹ، مشارکہ سرٹیفکیٹ،

ٹرم فنانس سرٹیفکیٹ یا اتھارٹی کی جانب سے دیگر کوئی مالیاتی یا قرض دستاویزات یا

تمسکات کی بنیاد پر فنڈز؛ اور

(ز) اتھارٹی کی جانب سے وصول کردہ رقوم جیسا کہ نقصانات لاگت، واپسی، جرمانے

تعزیرات وغیرہ؛

(۳) اتھارٹی کو اس ایکٹ کی شرائط کے تابع مذکورہ رقومات جیسا کہ یہ اتھارٹی کے تمام کاروبار کے فروغ،

انتظامی اخراجات کو پورا کرنے اور اتھارٹی کے دیگر کسی کارہائے منصبی کی ادائیگی کے لیے مناسب سمجھے اور مذکورہ رقوم کو

اتھارٹی کے فنڈ سے بطور صرفہ دیکھا جائے گا۔

(۴) اتھارٹی کے قرض پر بقایا تمام پیسے جو فوری طور پر لاگو نہیں کئے جاسکتے ہیں جیسا کہ ذیلی دفعہ (۳)

کے تحت فراہم کیے گئے ہیں ذیل ہوں گے۔

(الف) بینک کھاتوں میں جمع شدہ جیسا کہ دفعہ ۳۲ میں فراہم کیا گیا ہے؛ اور  
 (ب) وفاقی حکومت کی تمسکات میں لگائی گئی یا دیگر ایسے طریقے میں جیسا کہ قواعد کے ذریعے  
 صراحت کیا جائے۔

۳۲۔ بینک کھاتے:- اتھارٹی جدولی بینکوں میں اپنے ناقابل سوخت بینک کھاتے کھولے گی اور برقرار رکھے گی اور مذکورہ کھاتوں کو ایسے طریقہ کار میں چلائے گی جیسا کہ ضوابط کے ذریعے صراحت کیا جائے۔  
 مگر شرط یہ ہے کہ ضوابط وضع کرنے کے وقت تک اتھارٹی مذکورہ کھاتوں کو گورننگ کونسل کی ہدایات کی مطابقت میں چلائے گی۔

۳۳۔ اتھارٹی کے قرضہ لینے کے اختیارات:- اتھارٹی اس کے سرمایہ جاتی اخراجات، زیر کار سرمایہ جات یا اس کے کسی بھی کارہائے منصبی کی انجام دہی کے لیے کسی بھی کرنسی میں ذیل میں قرض حاصل کر سکے گی۔  
 (الف) جدولی بینک یا مالیاتی ادارہ جو پاکستان کے اندر ہو؛  
 (ب) بیرون پاکستان کسی بھی ملک میں مالیاتی ادارے سے فی الوقت نافذ العمل قوانین کی تعمیل میں؛  
 (ج) بانڈز یا تمسکات سے فنڈز۔

۳۴۔ میزانیہ اور کھاتے:- (۱) اتھارٹی اس کے مالیاتی امور سے متعلق دیگر تمام ریکارڈز اور درست کھاتوں کو بشمول اس کی آمدن، مصارف اور اس کے اثاثوں اور واجبات کو ایسی شکل میں اور طریقہ کار میں برقرار رکھے گی جیسا کہ قواعد کے ذریعے صراحت کیا جائے۔  
 (۲) گورننگ کونسل اتھارٹی کے ایک مالیاتی سال کے سالانہ میزانیہ کی قواعد کے ذریعے صراحت کردہ طریقہ کار میں منظوری دے گی۔  
 (۳) میسجنگ ڈائریکٹر کو مختلف مد حساب میں فنڈز کو ان پر قابل اطلاق قواعد و ضوابط کے مطابق تبدیلی مد کا اختیار حاصل ہوگا۔

۳۵۔ جانچ:- (۱) اتھارٹی کے کھاتوں کی جانچ ہر سال آڈیٹر جنرل کی جانب سے دستور کے آرٹیکلز ۱۶۹ اور ۱۷۰ کے لحاظ سے کی جائے گی۔

(۲) اتھارٹی کے کھاتے جیسا کہ آڈیٹر جنرل کی جانب سے سے توثیق کیے گئے ہوں ان پر آڈٹ رپورٹ کے ہمراہ اتھارٹی کی جانب سے وفاقی حکومت کو سالانہ ارسال کیے جائیں گے۔

(۳) اتھارٹی ذیلی دفعہ (۱) کے تحت آڈٹ کے علاوہ اس کے کھاتوں کی اندرونی آڈٹ کو بھی عمل میں لانے کا موجب بنے گی۔

۳۶۔ فیسیوں، مصارف وغیرہ کی بازیابی:- اس ایکٹ کے تحت اتھارٹی کو واجب الادا تمام فیسیں، مصارف، جرمانے اور دیگر رقوم ایسے طریقوں میں بازیاب کرائی جائیں گی جیسا کہ قواعد کے ذریعے صراحت کیے جائیں۔

## باب۔ گیارہ

### فیصلہ سازی بورڈ اور تنازعہ کا حل

۳۷۔ شکایت سیل:- (۱) اتھارٹی ہر ایک لینڈ پورٹ پر ایک شکایت سیل قائم کرے گی جو ہر لینڈ پورٹ کے استعمال کنندہ یا دیگر کوئی شخص جو لینڈ پورٹ سے متعلق کسی بھی غیر معاہداتی معاملے سے متاثر ہوا ہو سے شکایت وصول کرے گا۔

(۲) شکایت سیل تمام شکایات کو رجسٹر میں سیریل نمبر پر درج کرے گا اور شکایت موصول ہونے سے اکیس دنوں کے اندر شکایت کو حل کرنے کے لیے تیز اقدامات اٹھائے گا۔

(۳) شکایت کنندہ کو شکایت کی صورت حال کے بارے میں آگاہ کی جائے گا۔

۳۸۔ فیصلہ سازی بورڈ:- (۱) اتھارٹی کی جانب سے عوام الناس، لینڈ پورٹ کے استعمال کنندہ اور فریقین جن کے دعوے ہوں یا ایکٹ قواعد اور ضوابط کے تحت اتھارٹی کی کارروائیوں سے متاثرہ شخص کی جانب سے شکایات دعوے اور تنازعات کے فوری تصفیہ کے لیے ایک فیصلہ سازی بورڈ قائم کیا جائے گا جو ان کا فوری بنیادوں پر تصفیہ کرے گا۔

(۲) فیصلہ سازی بورڈ کی ترکیب، انعقاد اور طریقہ کار ایسا ہوگا جیسا کہ قواعد کے ذریعے صراحت کیا جائے اور فیصلہ سازی بورڈ کے روبرو کارروائیوں کا انعقاد جسمانی طور پر موجود یا بصری رابطے کے ذریعے کیا جائے گا۔

(۳) اس دفعہ میں محولہ فیصلہ سازی بورڈ حسب ذیل کارہائے منصبی سرانجام دے گا یعنی:-

(الف) کسی بھی تنازعے یا اختلاف پر ریفرنس وصول کرنا اور فیصلہ کرنا بشمول اتھارٹی کی جانب سے لاگو کردہ جرمانے یا اس ایکٹ، قواعد اور ضوابط کے تحت پیدا ہونے والے دعوے یا فریقین کی ذمہ داریوں اور حقوق سے متعلق جو ان کے اتھارٹی کے ساتھ شامل معاہدوں کے ڈھانچے کے اندر ہو اور تنازعہ میں شامل تمام فریقین کو غور کرنے اور سننے کے بعد حکم صادر کرنا؛

(ب) اتھارٹی کی جانب سے پیش کردہ سروئز اور سروئز کی شرائط کے خلاف عوام الناس یا لینڈ پورٹ سے موصول شدہ شکایات پر غور کرے گا اگر شکایت سیل کی جانب سے طے شدہ وقت کے اندر توجہ نہیں دی گئی ہو اور متعلقہ فریقین کو سننے کے بعد ضروری حکم صادر کرنا؛

(ج) کسی بھی معاملے میں انکوائری کا انعقاد کرنا؛ اور

(د) اتھارٹی کے آپریشن سے متعلق کسی بھی معاملے پر غور کرنا جیسا کہ وفاقی حکومت گورننگ کونسل یا اتھارٹی کی جانب سے اس سے ارسال کیا گیا ہو اور حکم صادر کرے گا یا تجاویز دے گا جیسی بھی صورت ہو؛

(۴) فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی قانون میں شامل کسی بھی شے کے باوصف فیصلہ سازی بورڈ کو وہی

اختیارات حاصل ہوں گے جیسا کہ مجموعہ ضابطہ دیوانی ۱۹۰۸ء (نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء) کے تحت ایک دیوانی عدالت کو حاصل ہوں جب حسب ذیل معاملات کی بابت ایک مقدمے کی سماعت کر رہا ہو۔

(الف) کتابی حساب اور دیگر دستاویزات کی ایسے مقام اور ایسے وقت کے اندر دریافت اور پیش کش جیسا کہ فیصلہ سازی بورڈ کی جانب سے صراحت کیا جائے؛

(ب) اشخاص کو سمن جاری کرنا اور ان کی حاضری کو یقینی بنانا اور ان کا حلف لینا؛

(ج) گواہوں یا دستاویزات کے معائنے کے لیے کمیشن کا اجراء کرنا حلف نامے پر شواہد لینا،

کسی شخص کو ثبوت دینے اور کوئی بھی دستاویز یا دیگر مواد مہیا کرنے کے لیے مجبور کرنا؛

(د) کسی بھی دفتر سے معلومات کا مطالبہ کرنا؛

(ه) کسی بھی فریق، گواہ کو سمن جاری کرنا؛ اور

(و) دیگر کوئی معاملہ جس کی صراحت کی جائے۔

(۶) فیصلہ سازی بورڈ اپنے فیصلوں کی ایسے طریقہ کار میں تعمیل کرائے گا جیسا کہ ضوابط کے ذریعے صراحت کیا جائے۔

(۷) فیصلہ سازی بورڈ کے روبرو کسی بھی کارروائی کے دوران اور حتمی حکم صادر کرنے سے قبل فیصلہ سازی بورڈ ایسا حکم درمیان صادر کرے گا جیسا کہ یہ حالات میں مناسب سمجھے۔

**۳۹۔ تنازعے کا حل :-** اتھارٹی یا کسی بھی ہیئت کے مابین تنازعہ جو سرکاری نجی شراکت داری یا رعایت

معادہ یا دیگر کوئی معادہ جس کے معاہدے کی مالیت ایک کروڑ روپے سے زیادہ ہو سے پیدا ہوا ہو تو پھر ایکٹ کی کسی بھی شرائط کے باوصف فریقین تنازعہ کو حسب ذیل طریقہ میں حل کریں گی، یعنی :-

(الف) فریقین پہلے اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کریں گی؛

(ب) اگر کوئی اتفاق رائے حاصل نہیں ہوتا تو فریقین تنازعہ کا ثالث یا مصالحت کنندہ کے ذریعے

تصفیہ کرایا جائے گا جیسا کہ کسی بھی معاہدے، مفاہمت کے تحت اتھارٹی میں شامل ہوا ہو۔

**۴۰۔ کسی بھی حکم یا فیصلے پر نظر ثانی اور اپیل :-** (۱) اگر فیصلہ سازی بورڈ کے کسی بھی فیصلوں یا

حکم میں کوئی بھی محررانہ اور دستی حساب میں کوئی غلطی ہو اور مذکورہ حکم یا فیصلے سے متاثرہ فریق فیصلہ سازی بورڈ کے روبرو مذکور فیصلے پر نظر ثانی کے لیے ایسے طریقہ کار اور شکل میں اور ایسی معیاد کے اندر درخواست دے سکے گی جیسا کہ ضوابط کے ذریعے صراحت کیا جائے اور فیصلہ سازی بورڈ اس پر ایسا حکم وضع کر سکے گا جیسا کہ یہ موزوں سمجھے۔

(۲) فیصلہ سازی بورڈ کے کسی بھی حکم یا فیصلے سے متاثرہ کوئی بھی فریق مذکورہ حکم یا فیصلے کے ابلاغ کی تاریخ

سے تیس دنوں کے اندر اپلیٹ ٹریبونل میں اپیل دائر کر سکے گی۔

مگر شرط یہ ہے کہ فیصلہ سازی بورڈ کی جانب سے فریقین کی رضامندی پر صادر کردہ فیصلے یا حکم پر کوئی اپیل نہیں کی جائے گی۔

(۳) اپلیٹ ٹریبونل کی تشکیل، انعقاد طریقہ کار اور اس کے کارہائے منصبی ایسے ہوں گے جیسا کہ قواعد کے

ذریعے صراحت کیے جائیں اور اپلیٹ ٹریبونل کے روبرو کارروائیاں جسمانی طور پر موجودگی یا بصری رابطے کے ذریعے کی جائیں گی۔

## باب - بارہ

### متفرقات

۴۱۔ سالانہ رپورٹ پیش کرنا:- (۱) اتھارٹی مالیاتی سال کے اختتام سے تین ماہ کے اندر وفاقی حکومت کو سالانہ رپورٹ پیش کرے گی۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت سالانہ رپورٹ ذیل پر مشتمل ہوگی:-

(الف) اتھارٹی کے کھاتوں کے گوشوارے اور آڈٹ رپورٹ؛

(ب) اتھارٹی کے پچھلے مالی سال کے دوران کام اور سرگرمیوں کے جامع گوشوارے اور اس کے

مجوزہ منصوبے؛ اور

(ج) دیگر ایسے معاملات جیسا کہ قواعد کے ذریعے صراحت کیے جائیں یا جیسا کہ اتھارٹی

موزوں سمجھے؛

۴۲۔ زمین کا حصول:- (۱) کسی بھی زمین کا حصول یا اتھارٹی کے کارہائے منصبی کی انجام دہی

زمین پر کوئی بھی مفاد عوام الناس کے اغراض کے لیے حصول سمجھا جائے گا۔

(۲) جہاں اتھارٹی کے اغراض کے لیے کوئی بھی زمین درکار ہو تو وفاقی حکومت یا جیسی بھی صورت ہو

صوبائی حکومت اتھارٹی کی درخواست پر حصول اراضی ایکٹ ۱۸۹۳ء (نمبر ۱۸۹۳ء) یا فی الوقت نافذ العمل

دیگر کسی قانون کی دفعات کے تحت اس کا قبضہ حاصل کر سکے گی اتھارٹی کی جانب سے اس ایکٹ کے تحت تفویض کردہ

معاوضے کی ادائیگی کے بعد اور کارروائیوں کے سلسلے میں آنے والے مصارف پر اراضی اتھارٹی کو حاصل ہوگی۔

۴۳۔ جائیداد کا تبادلہ لیز یا خریدنا:- اتھارٹی کسی بھی اراضی عمارت یا دیگر کسی املاک کو اس کے

مالک یا شخص جو مذکورہ املاک کا قانونی طور پر فروخت کرنے پٹے پر دینے یا تبادلہ کرنے کا مجاز ہو کے ساتھ معاہدہ کر

کے خرید سکتی ہے، پٹے پر دے سکتی ہے اور تبادلہ کر سکتی ہے۔

۴۴۔ گم شدہ املاک کا تصفیہ اور نگران کاری:- اس ایکٹ کی شرائط اور ضوابط جیسا کہ صراحت کئے

جائیں سے مشروط اتھارٹی کسی بھی املاک کی محفوظ نگران کاری کے تحفظ کا اہتمام کرے گی جب کہ بضابطہ نگران کاری

میں نہ ہو جو اتھارٹی کے کسی بھی احاطے میں پائی گئی ہو یا اس کے مجموعی کنٹرول میں ہو۔

### ۴۵۔ بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون:- اتھارٹی وفاقی حکومت کی پیشگی منظوری سے غیر ملکی

بندرگاہ اتھارٹیز یا بین الاقوامی تنظیموں سے نقل و حمل، مال برداری، انتظامی بندرگاہ مال اور لوگوں کی سرحد پار آمد و رفت یا تعاون کے لیے کسی بھی پروگرام یا معاہدے کی قیود و شرائط سے متعلق تعاون کے شعبے جس کے لیے مذکورہ اتھارٹی یا تنظیم ایک فریق ہے یا دیگر کسی بین الاقوامی معاہدے کی پیروی میں جو اس ایکٹ کے آغاز و نفاذ سے قبل وضع کیا گیا ہے تعاون کرے گی۔

### ۴۶۔ صنعتی تعلقات آرڈیننس ۱۹۶۹ء وغیرہ کا اطلاق نہیں ہوگا:- صنعتی تعلقات

آرڈیننس ۲۰۱۲ء (نمبر ۱۰ مجریہ ۲۰۱۲ء) یا مزدور یا تجارتی یونین سے متعلق فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی قانون میں شامل کوئی شے اتھارٹی کی بابت اتھارٹی کے کسی بھی اراکین، ملازمین، کارکن، افسران، ماہرین، مشیران، کونسلٹنٹس پر لاگو نہیں ہوگی۔

### ۴۷۔ اتھارٹی کی علامت ڈیزائن یا نمائندگی:- (۱) اتھارٹی کے پاس مذکورہ علامت، ڈیزائن

یا نمائندگی کے استعمال کا بلا شرکت غیر حق حاصل ہوگا جیسا کہ یہ منتخب وضع کرے اور اس کے بعد اس کے امور یا سرگرمیوں کے سلسلے میں نمائش یا آویزاں کرے۔

(۲) کوئی بھی شخص جو دانستہ طور پر یا بصورت دیگر کوئی ایسی علامت، ڈیزائن یا نمائندگی استعمال کرتا ہے

یا جو اتھارٹی کے علامت، ڈیزائن یا نمائندگی سے مشابہت رکھتا ہو جو اتھارٹی کی شناخت کو دھوکہ دینے کا سبب بنتا ہے یا اس کا امکان ہے تو اس سے ایسے طریقے کار میں مزادی جائے گی جیسا کہ قواعد کے ذریعے صراحت کیا جائے۔

### ۴۸۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار:- (۱) وفاقی حکومت اس ایکٹ کی شرائط کو مؤثر بنانے

کے لیے قواعد وضع کر سکے گی جو اس کی شرائط سے متناقض نہ ہوں۔

(۲) بالخصوص اور مذکورہ بالا قواعد کی عمومیت کو نقصان پہنچائے بغیر منجملہ حسب ذیل کے لیے قواعد وضع

کیے جائیں گے، یعنی:-

(الف) اتھارٹی کے انتظامی، آپریشنل اور مالیاتی انتظام کے لیے؛

(ب) اس ایکٹ کے تحت لائسنس کے اجراء، تبدیلی، منسوخی اور ترمیم کے طریقہ کار کے لیے؛

(ج) لینڈ پورٹ پر گاڑیوں، سامان، مسافروں اور دیگر اہلکاروں کے داخلے اور اخراج کی نقل و حرکت کا ضابطہ اور کنٹرول کے لیے؛

(د) تجارتی سروسز فراہم کنندگان اور لینڈ پورٹ کے آپریٹرز کا ضابطہ اور معائنہ شرائط جن کے تحت افسر چلایا جاسکے، انتظام کیا جاسکے، برقرار رکھا جاسکے، نگرانی کی جاسکے، تخمینہ لگایا جاسکے اور سروسز فراہم کی جاسکے؛

(ہ) اس ایکٹ کی شرائط کے نفاذ کی غرض کے لیے اتھارٹی کی املاک کا معائنہ یا نگرانی کے لیے؛

(و) منظوری کی شرائط کے لیے؛

(ز) ایکٹ کی شرائط سے مشروط جرمانوں کے اطلاق اور جمع کرنے کے لیے؛ اور

(ح) دیگر کوئی معاملات جیسا کہ ایکٹ میں فراہم کیے گئے ہیں کے لیے؛

۳۹۔ ضوابط بنانے کا اختیار:- (۱) اتھارٹی اس ایکٹ کے اغراض کو عمل میں لانے کے لیے

ضوابط وضع کر سکے گی، جو اس ایکٹ یا اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قواعد سے متناقض نہ ہوں۔

(۲) بالخصوص اور مذکورہ بالا ضوابط کی عمومیت کو مضرت پہنچانے بغیر منجملہ ذیل کے لیے ضوابط وضع کئے جائیں گے۔

(الف) اتھارٹی کے ملازمین، افسران، عملے، مشیران، کنسلٹنٹس کے تقرر انضمام، ہٹانے یا منضبط کرنے کے لیے؛

(ب) اتھارٹی کے ملازمین، افسران، عملے، مشیران، کنسلٹنٹس کی ملازمت کے لیے قیود و شرائط؛

(ج) مختلف کمیٹیوں کے لیے اراکین کے تقرر کے لیے طریقہ کار نیز مذکورہ کمیٹیوں کا طریقہ کار یا

طرز عمل؛ اور

(د) دیگر کوئی معاملہ جو اس سے منسلک ہو یا اس کا ضمنی ہو؛

۵۰۔ اتھارٹی محصول کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہوگی:- دیگر کسی قانون میں شامل کسی بھی شے کے باوصف اس ایکٹ کے آغاز و نفاذ سے پانچ سال کی مدت تک اتھارٹی آمدن ٹیکس کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہوگی اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت تمام ضروری انتظامی اقدامات کرے گی اور تمام مطلوبہ احکامات، ہدایات یا اعلیٰے جاری کرے گی۔

۵۱۔ رازدانہ معلومات:- (۱) ماسوائے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قواعد میں فراہم کیا گیا ہو، کوئی بھی شخص کسی بھی ریکارڈ یا معلومات کو جو اس ایکٹ کی مطابقت میں حاصل کی گئی ہو کسی بھی شخص کو ابلاغ نہیں کرے گا جو قانونی طور پر اس ریکارڈ یا معلومات کو حاصل کرنے کا مستوجب نہ ہو یا کسی بھی شخص کو جو قانونی طور پر مذکورہ ریکارڈ یا معلومات تک رسائی کا حق دار نہ ہو یا اس ایکٹ کے تحت حاصل کردہ کسی بھی ریکارڈ تک رسائی کی اجازت نہیں دے گا۔ (۲) کوئی بھی شخص جو اس دفعہ کی شرائط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ ایسے طریقہ کار میں سزا دی جائے گی جیسا کہ صراحت کیا جائے۔

۵۲۔ استثناء:- اتھارٹی، گورننگ کونسل، اتھارٹی میئنگ ڈائریکٹر، سیکرٹری، اراکین، ملازمین، افسران، عملے کے اراکین مشیران، کنسلٹنٹس کے خلاف کسی بھی شے کی بابت کوئی بھی مقدمہ یا دیگر قانونی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی جو انہوں نے اس ایکٹ کی شرائط یا اس کے تحت وضع کردہ قواعد و ضوابط کے تحت نیک نیتی سے انجام دیے ہوں یا دینے کا ارادہ رکھتے ہوں۔

۵۳۔ منتقلی اور استثناء:- اس ایکٹ کے آغاز و نفاذ سے قبل لینڈ پورٹ پر لینڈ پورٹ کے آپریشن میں شامل فریقین کا کوئی بھی موجودہ معاہدے یا انتظامات اتھارٹی کی جانب سے اس ایکٹ کے تحت مذکورہ لینڈ پورٹس کو معاہدے یا لائسنس عطاء کرنے تک جاری رہیں گے۔

مگر شرط یہ ہے کہ مذکورہ منتقلی کے انتظامات صرف ایسی میعاد تک نافذ رہیں گے جیسا کہ اتھارٹی کی جانب سے آزاد مسابقت کے مفاد میں ضروری سمجھا جائے۔

۵۴۔ ایکٹ تخفیف نہیں کرے گا:- اس ایکٹ کی شرائط علاوہ ازیں اور لینڈ پورٹ کے امور کے سلسلے میں منسلک کسی بھی حکومتی ایجنسی کو تابع کرنے والے قانون کے تخفیف میں نہیں ہوں گی اور کسی بھی تنازعہ کی صورت میں اس ایکٹ کی شرائط غالب ہوں گی۔

۵۵۔ ازالہ مشکل:- اگر اس ایکٹ کی کسی بھی شرائط کو موثر بنانے میں کوئی مشکل پیش آئے تو وفاقی حکومت ایسی ہدایات دے سکے گی جیسا کہ مناسب سمجھے جو اس ایکٹ کی شرائط سے متناقض نہ ہوں۔

## بیان اغراض وجوہ

عنوان:- پاکستان لینڈ پورٹ (زمینی بندرگاہ) اتھارٹی (پی ایل پی اے) PLPA بل ۲۰۲۳ء

یہ قرین مصلحت ہے کہ پاکستان میں لینڈ پورٹس پر سامان اور مسافروں کی سرحد پار نقل و حرکت کے لیے سہولیات کا ایک مربوط نظام کرنے اور اس کا انتظام کرنے اور اس کے آپریشن، انتظام لینڈ پورٹ کی ترقی اور اس سے منسلک اور اس کے ضمنی امور کے لیے لینڈ پورٹ (زمینی بندرگاہ) اتھارٹی قائم کی جائے۔

تجارت کو فروغ دینے آزاد مسابقت کو فروغ دینے سرحدی کنٹرول کو نافذ کرنے اور لینڈ پورٹ کی موثر حکمرانی کے لیے پاکستان کے قومی اور کلیدی مفادات کے تحفظ کے اغراض کے لیے تمام لینڈ پورٹ کی نگرانی، تحفظ ضابطے کے اعلان کے لیے ایک فریم ورک فراہم کیا جائے مزید براں لینڈ پورٹس کی کارکردگی اور علاقائی بندرگاہوں کی مسابقت کو بڑھانے کے لیے بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنز کے تحت پاکستان کے وعدوں کے مطابق تجارتی سہولت کے لیے سرحدی ایجنسیوں کے ساتھ موثر رابطہ کاری کے لیے ایک مضبوط میکانزم قائم کرنا ضروری ہے۔

مذکورہ بالا اعتراضات اور وجوہات کی پیروی میں یہ بل پاکستان لینڈ پورٹ (زمینی بندرگاہ) اتھارٹی کے انتظام اور ضابطے کو موثر بنانے کے لیے متعارف کرایا جا رہا ہے۔

سید محسن نقوی

وزیر داخلہ